



دارالعلوم دیوبند کی سو سالہ زندگی اس کی تاسیس
وجہ تاسیس تعلیمی، تبلیغی، انتظامی اور عام افادی کو انت و
احوال اور مشاہیر دارالعلوم کے حالات زندگی کا مختصر مکمل جامع مدقق

مولانا محمد طیب صاحب مذکولہ
مہتمم دارالعلوم دیوبند

دارالاشاعت
مولوی مسافرخانہ کراچی

فہرست مختونات

۱۹	۴	پیش لنظر
۰	۱۱	تہبید تاریخ دارالعلوم دیوبند
۶	۱۲	بناۓ دارالعلوم
۵	۱۳	عہ شعبۂ توشنوبی
۴	۱۴	اساسی اصول ہستگاہ از جمیعت و دارالعلوم
۴	۱۵	انتظامی اصول ہستگاہ از جمیعت و دارالعلوم
۴	۱۶	دارالعلوم کی تاسیس و رہیشن گویاں
۴	۱۷	دارالعلوم کا سلسلہ سند و استناد
۰	۱۸	دارالعلوم کا سلسلہ سند و استناد
۰	۱۹	دارالعلوم کا سلسلہ سند و استناد
۰	۲۰	دارالعلوم کا سلسلہ سند و استناد
۰	۲۱	دارالعلوم کا سلسلہ سند و استناد
۰	۲۲	دارالعلوم کا سلسلہ سند و استناد
انتظامی شعبۂ جات		
۳۰	۲۳	دارالعلوم کی ذمہ دار مجالس
۰	۲۴	دارالعلوم کی ذمہ دار مجالس
۰	۲۵	اوہ اس کی تربیت کا رجسٹر
۰	۲۶	دارالعلوم کی ذمہ دار مجالس
۰	۲۷	دارالعلوم کی ذمہ دار مجالس
۰	۲۸	دارالعلوم کی ذمہ دار مجالس
۰	۲۹	دارالعلوم کی ذمہ دار مجالس
۰	۳۰	دارالعلوم کی ذمہ دار مجالس
دارالعلوم کے شعبۂ جات		
۳۱	۳۱	دارالعلوم کے شعبۂ جات
۰	۳۲	دارالعلوم کے شعبۂ جات
۰	۳۳	دارالعلوم کے شعبۂ جات
۰	۳۴	دارالعلوم کے شعبۂ جات
۰	۳۵	دارالعلوم کے شعبۂ جات
۰	۳۶	دارالعلوم کے شعبۂ جات
۰	۳۷	دارالعلوم کے شعبۂ جات
۰	۳۸	دارالعلوم کے شعبۂ جات
۰	۳۹	دارالعلوم کے شعبۂ جات
۰	۴۰	دارالعلوم کے شعبۂ جات
۰	۴۱	دارالعلوم کے شعبۂ جات
۰	۴۲	دارالعلوم کے شعبۂ جات
۰	۴۳	دارالعلوم کے شعبۂ جات
۰	۴۴	دارالعلوم کے شعبۂ جات
۰	۴۵	دارالعلوم کے شعبۂ جات
۰	۴۶	دارالعلوم کے شعبۂ جات
۰	۴۷	دارالعلوم کے شعبۂ جات
۰	۴۸	دارالعلوم کے شعبۂ جات
۰	۴۹	دارالعلوم کے شعبۂ جات
۰	۵۰	دارالعلوم کے شعبۂ جات




جملہ حقوق محفوظ!

اشاعت اول ستمبر ۱۹۶۲ء

باہتمام حورصی عثمانی:

طبع مشهور پر بیس:




ملنے کے پڑتے

داراللشافت مقابل مولوی مسافر کراچی ۔

ادارۂ اسلامیات ۱۹۰ انارکی ۔ لاہور

ادارۂ المعارف ڈاک خانہ دارالعلوم کراچی ۱۳۳

مکتبہ دارالعلوم ڈاک خانہ دارالعلوم کراچی ۱۳۳



۸۳	ع۵ حضرت مولانا حامد الانصاری عازی مدظلہ	۲۷	ع۵ حضرت مولانا عبد العزیز صاحبؒ
۹	ع۶ حضرت مولانا مفتی محمود مسٹا مدظلہ ایم پی	۲۸	ع۶ حضرت مولانا محمد سبول صاحب جما پکپوری
۸۴	ع۵ حضرت مولانا سید محمد منٹ اللہ صنوار انصاری	۲۹	ع۶ حضرت مولانا ناصر میاں صنا منصور انصاری
۸۵	ع۵ مولانا احسان اللہ تاجور بحیب آبادی	۳۰	ع۶ حضرت مولانا محمد ابراهیم صاحب آرویؒ
۹	ع۵ مولانا شاہن احمد صاحب عثمانی	۳۱	ع۶ حضرت مولانا شیر احمد عثمانیؒ
۹	ع۵ مولانا سید فخر الدین احمد صاحب مدظلہ	۳۲	ع۶ حضرت مولانا اسید احمد حسن امرودیؒ
۹	دارالعلوم کے فضلائے کرام کی کارکردگی	۳۳	ع۶ حضرت مولانا حکیم سعیل الدین نجفی نویؒ
۹	عکس میں دارالعلوم کی شخصیں اور زیر اثر مدارس	۳۴	ع۶ حضرت مولانا عبد العلی صاحب دہلویؒ
۹	بیرون ہند ماکاک غیر میں دارالعلوم کا اثر	۳۵	ع۶ حضرت مولانا نواب خی الدین خاں صاحبؒ
۹۰	[دارالعلوم کے تعلیمی مصادر]	۳۶	ع۶ حضرت مولانا صدقی احمد صاحب امیلھویؒ
۹۰	[اور اس کی کفایت شاعری]	۳۷	ع۶ حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانیؒ
۹۱	[فضلا و مستقیدین دارالعلوم]	۳۸	ع۶ حضرت مولانا اشرف علی نخاونیؒ
۹۱	{ کی عددی تفصیلات }	۳۹	ع۶ حضرت مولانا حافظ عبدالرحمن امرودیویؒ
۹۲	دارالعلوم کے اسلام	۴۰	ع۶ حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحبؒ
۹۲	دارالعلوم کے اعلیٰ عہد سے دار	۴۱	ع۶ حضرت مولانا حسیب الرحمن سائب عثمانیؒ
۹۳	دارالعلوم کے سرپرست	۴۲	ع۶ مولانا حکیم عبد الوہاب (نابینا)
۹۳	دارالعلوم کے چہنم	۴۳	ع۶ حضرت مولانا سید مرشدی حسن چاند پوریؒ
۹۴	دارالعلوم کے صدر مدرس	۴۴	ع۶ حضرت مولانا نجم الدین صاحبؒ
۹۴	دارالعلوم دیوبند کے مفتی	۴۵	ع۶ حضرت مولانا سید محمد غوث ہزاری مدظلہؒ
۹۵	دارالعلوم دیوبند کے نائب چہنم	۴۶	ع۶ حضرت مولانا بدر عالم صاحب مدظلہؒ
۹۵	دارالعلوم دیوبند کے صدر چہنم	۴۷	ع۶ حضرت مولانا عفیق الرحمن عثمانی مدظلہؒ
۹۶	دارالعلوم دیوبند کے مفتی	۴۸	ع۶ حضرت مولانا عبید الغفور رضا جابریؒ
۹۶	دارالعلوم دیوبند کے نائب چہنم	۴۹	ع۶ حضرت مولانا عبد الرحمن سیوطی عارویؒ
۹۷	دارالعلوم دیوبند کے صدر چہنم	۵۰	ع۶ حضرت مولانا سید حسین احمد صاحبتدیؒ
۹۷	دارالعلوم دیوبند کے مفتی	۵۱	ع۶ حضرت مولانا عبد الرحمن شاہزادیؒ
۹۸	دارالعلوم دیوبند کے نائب چہنم	۵۲	ع۶ حضرت مولانا عبد اللہ صاحب سندھیؒ
۹۸	دارالعلوم دیوبند کے صدر چہنم	۵۳	ع۶ حضرت مولانا محمد نجم المعنی صاحب سہروردیؒ
۹۹	دارالعلوم دیوبند کے مفتی	۵۴	ع۶ حضرت مولانا عبد الرحمن شعبہ بات و مہذبینؒ
۹۹	دارالعلوم دیوبند کے عالم مددین مولیعین	۵۵	ع۶ حضرت مولانا احمد اکبر آبادی مدظلہؒ
۱۰۰	[نظام شعبہ بات و مہذبین وغیرہ]	۵۶	ع۶ حضرت مولانا عبد الرحمن شعبہ بات و مہذبین وغیرہ
۱۰۰	اسماً گرامی نظام و نکان شعبہ بات	۵۷	ع۶ حضرت مولانا عبد الرحمن شعبہ بات و مہذبین وغیرہ

۳۱	مشائیر دارالعلوم اور ان کی نسبات	۶۱	مشائیر دارالعلوم
۳۲	ع۶ حکیم الاسلام مولانا محمد فاقہ اسم صاحبؒ	۶۲	ع۶ شعبہ تبلیغ
۳۲	ع۶ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گلگوچی	۶۳	ع۶ شعبہ دریشن
۳۲	ع۶ شیخ الحنفی مولانا محمد نجم المعنی صاحبؒ	۶۴	ع۶ شعبہ تجمعۃ الطلباء
۳۲	ع۶ حضرت مولانا عبد اللہ صاحب امیلھویؒ	۶۵	مالی شعبہ جات
۳۳	ع۶ حضرت مولانا سید احمد حسن امرودیؒ	۶۶	ع۶ شعبہ محاسیبی
۳۴	ع۶ حضرت مولانا حکیم سعیل الدین نجفی نویؒ	۶۷	ع۶ شعبہ اوقات
۳۴	ع۶ حضرت مولانا عبد العلی صاحب دہلویؒ	۶۸	۶۳ تنظیم درستی
۳۴	ع۶ حضرت مولانا عبد الرحمن شعبہ بات و مہذبینؒ	۶۹	۶۴ ادارہ استثمار
۳۵	دارالعلوم کا نصاب تعلیم	۷۰	درجہ عربیہ کا گیارہ سالہ نصاب
۳۵	نصاب درجہ قراءۃ و تجوید	۷۱	نصاب درجہ قراءۃ و تجوید
۳۵	نصاب درجات فارسی و ریاضی	۷۲	نصاب درجہ حفظ قرآن شریعت
۳۵	نصاب درجہ حفظ قرآن شریعت	۷۳	نصاب ابتدائی اردو دینیات
۳۵	دارالعلوم کی سندیں اور مشکلیات	۷۴	دارالعلوم کی دوسرے ادارات
۳۵	دارالعلوم کا چہنم	۷۵	جز ارشاد دارالعلوم
۳۶	دارالعلوم کا دفاع عن الدین	۷۶	دارالعلوم کا دفاع عن الدین
۳۶	دارالعلوم نے لکھ کو کیا تفعیل پہنچایا	۷۷	ہندوستان
۳۶	پاکستان	۷۸	پاکستان
۳۶	[دارالعلوم کے فیوض]	۷۹	[دارالعلوم کے فیوض]
۳۷	[بیرون ہند میں]	۸۰	دارالعلوم کا حصہ تسابیت میں

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پہلی لفظ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادٍ اَلَّذِیْنَ اَصْطَافُوا
ایک عرصہ سے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ دارالعلوم دیوبند کی ایک اجمانی
تاریخ، اردو، عربی، انگریزی، گرافی اور ہندی میں کتابی صورت سے پیش کی جائے۔
کیونکہ دارالعلوم دیوبند صرف دینی تعلیم کی ایک مرکزی درس گاہ ہے بلکہ اسلامی
تہذیب و تعاویث اور دینی تربیت کا ایک بین الاقوامی مرکز بھی ہے اس کے فضلاً تمام
دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے علمی اور تہذیبی رشتہ علمی ادارے سے شخصیتوں
اور اداروں سے قائم ہیں۔ اور اس کے اثرات شعوری اور غیر شعوری طور پر عالم قلوب
لٹک پہنچے ہوئے ہیں۔ اس لئے متعلقین دارالعلوم کے خلا وہ واردین و صادرین کا
ایک مسئلہ ہے جو نہ صرف اطراف ہند بلکہ غیر ممالک سے شذر حال کر کے اس کی
طرف کھینچتا ہوا آثار رہتا ہے۔ پھر یہ نہ صرف علمی افراد بلکہ ہی محدود ہے بلکہ تاریخ
پسندیاں بھی اس کی شہرت و خلقت کی واسانیں سُن کر اس کے مشاہدہ کے لئے
بھرپور انتہاء تھے۔ آئینوالوں اور آنسے کے آرزومندوں کے دلوں میں معانت
سے قبل اور بعد قدر تائی سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ ”دارالعلوم کیا ہے؟ کب قائم
ہوا؟ کیوں قائم ہوا؟ کس نے قائم کیا؟ کن حالات میں قائم ہوا؟ اور قائم ہو کر اس

نے کیا کیا؟“ ان سوالات کا تفصیلی جواب ظاہر ہے کہ زبانی اور وہ بھی ہر واحد و صاحب
کے لئے علیحدہ علیحدہ دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ اس لئے بجز اس کے کوئی اور
چارہ کا رہنہ تھا کہ ان پرس و جو کرنے والوں کے سامنے دارالعلوم کی سالانہ
روادادیں، ماہانہ رسائلے، ہنگامی اشتہارات اور وقتی پیغام وغیرہ رکھ کر ان کی شک
شوونی گردی جائے۔ لیکن یہ صورت تاکافی ہونے کے ساتھ ساتھ ان سوالات کا
تشقیقی بخش جواب ہونے کے بجائے سوالات میں مزید اضافہ کا باعث ثبتی رہی جس
سے طلب حقیقت کا اشتیاق تو بڑھتا رہا اور تشقیق کی سی پیاس میں مزید اضافہ کر کی
رہی۔ ان کا غذاء سے ہنگامی اور جزوی حالات ضرور سامنے آجائے تھے لیکن
ان سے ندوہ بنیادی سوالات حل ہو سکتے تھے جو ہر وار و صادر کے دل کی آوانہ
تھے اور نہ ہی اصل ادارہ، اس کی بنیادی غرض و غایت، اس کے موسسین اور ہائیوں
کا کردار بلکہ تخصیص سال مادہ اس کی اساسی پوزیشن کا کوئی تعارف ہی ہو سکتا تھا۔
اس سلسلہ میں احضرت نے ۱۳۵۴ء میں ایک تحریر بنام ”سرسٹھ سالہ رواد و دارالعلوم“
مرتب کی جس میں ضروری عنوانات کے تحت دارالعلوم کا کچھ تاریخی مoward فراہم کر کے
اس سند کے سالانہ جلسہ تقسیم اعماق میں پیش کیا۔ حاضرین جلسہ اور واردین و صادرین
اس سے غیر معمولی طور پر متاثر ہوئے اور ان کے چہرول پر خوشی کی چمک نمایاں
طريق پر محسوس ہونے لگی۔ یہی سن بہر حال رواد و سرسری سالہ تھی تو
سرسٹھ سال ہی کی اس میں کارگزاری بھی دکھانی جا سکتی تھی اور وہ بھی ایک جلسہ میں
پڑھی جانے والی رواداد کی حیثیت سے تمثیل اور مختصر بھی تھی جس سے اس عظیم ادا
کی پوری پوری حقیقت اور اہمیت اور سہمہ گیر پوزیشن نمایاں نہیں ہو سکتی تھی۔
اس لئے یہ رواد بھی ایک حد تک وقتی اور جزوی کاغذ ہی کی حیثیت میں رہ گئی
جس سے یہ عمومی منصوبہ پورا نہ ہو سکا اور بدستور دل کی یہ خلش قائم رہی کہ پوئے
دارالعلوم کی ایک اجمالی مکمل تاریخ بیک وقت آنکھوں کے سامنے آئے جس
سے ادارہ کے سنوی یا وقتی حالات پر نہیں بلکہ خود ادارہ پر رکھنی پڑے اور اس

کی اساسی اور عالمگیر نوعیت، اس کی رفتار ترقی اور ترقی پذیر منصوبوں کے درختان آثار کھل کر سامنے آ جائیں جن سے بحثیت مجموعی خود ارادہ کی حقیقی عظمت دشمن نمایاں ہو۔

تب یہ اہم منصوبہ ایک ہم کے طور پر محترم سید حب صاحب رضوی انجارچ محافظ خانہ دارالعلوم کے سپرد کیا گیا۔ واقعات کی جستجو اور تلاش کے لیے عنوانات کی ایک فہرست الحضرت اہمیتیں دی۔ تاکہ ان نشانوں پر مواد بآسانی فراہم کیا جا سکے ساتھ ہی اپنی ذہنی معلومات بھی اُن کے سامنے رکھیں جو اکابر دارالعلوم کی مبارک مجلسوں اور صحبتوں کے ذریعہ میرے ذہن کی ہماقت بھی ہوئی تھیں۔ موضوع نے کام شروع کیا لیکن وہ اپنے وفتری فرائض اور متعلقہ خدمات کے ساتھ خاطر خواہ اس موضوع پر کام نہ کر سکے اور کام بدستور تشریف تجھیل رہا۔

بالآخر قرآن فال محترم مولانا عزیز احمد صاحب تاسی ناظم شعبہ تنظیم اہتمام قلم دارالعلوم دیوبند کے نام پر نکلا جنہیں ذاتی طور پر بھی اس قسم کے امور کی تدوین و تالیف سے دلچسپی تھی۔ اور وہ دارالعلوم کے مختلف شعبہ جات کے متعدد اہم تاریخی نقشے تیار کرچکے تھے جن میں ادارہ کی اصولی اور اساسی معلومات کا اچھا خاصہ ذخیرہ فراہم ہو گیا تھا۔ اس لیے اپنیں اس منصوبہ سے بطور خاص ذاتی دلچسپی پیدا ہوئی۔ آخر نے سابقہ عنوانات کی فہرست اُن کے سامنے رکھی اور کچھ ان کی رساطبیعت نے خود بھی مضمون خیر عنوانات پیدا کئے۔ جن سے احوال کے مختلف تاریخی پہلو سامنے آ سکتے تھے۔ موضوع نے دارالعلوم کی قدیم وجديروادوں اور مستند وفتری کاغذات سے ان عنوانات کے تحت مواد فراہم کرنا شروع کر دیا۔ اور ہر جمع شدہ حصہ وقتاً حاضر کو دکھاتے رہے۔ جس میں ترمیم و بنیخ، حذف ازدواج اور ترتیب میں تقدیم و تاخیر کے ساتھ جا بجا اپنی معلومات کا اضافہ کیا جاتا رہا۔

المحمد للہ کے سال بھر کی عرق ریزی سے دارالعلوم کی اجمالي تاریخ پر ایک ایسا جموعہ مرتب ہو گیا جس کے مطالعہ سے بالا جمال پورا دارالعلوم بیک وقت سامنے

اُنکھا ہے اور واردین و مادرین کے یہ سوالات کہ دارالعلوم کیا ہے؟ کیوں ہے؟ ب سے ہے؟ کس سے ہے؟ کیا کہ رہا ہے؟ وغیرہ وغیرہ اس سے بآسانی حل ہو سکتے ہیں۔ بالفاظ دیگر اس مجموعہ کے آئینہ میں دارالعلوم کی پوری تصویر اُن کے سامنے آ سکتی ہے۔

میں محترم بھائی مولانا عزیز احمد صاحب تاسی کا معمون ہوں کہ ان کی شبانہ روز محنت سے بیش اس مقصد میں کامیاب ہو سکا۔ اور آج دارالعلوم کی تاریخ کا یہ اجمالی مگر جامن خاکہ اس کے متولیں، بھی خواہوں اور متعلقین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔

اس تاریخ کو اردو سے عربی، انگریزی، ہندی اور ہجراتی میں منتقل کرنے کا منصوبہ بھی پیش نظر ہے تاکہ ہندو بیرون ہند کے متعلقین دارالعلوم، مشاہدان دیوبند اور بیرونی مذاہک کے مختلف وارو و صادر سیاح اور ساتھی ہی دوڑ راز مکونوں میں دارالعلوم کی محبت نے ہوتے ہزاروں افراد اُسے اپنی اپنی لغت کی آنکھ سے دیکھ سکیں۔ اُردو کا ایڈیشن فی الحال پیش کیا جا رہا ہے۔ اور عربی، انگریزی، ہندی اور ہجراتی کے ایڈیشن وسائل کی فراہمی کے بعد کسی قریبی تاریخ میں تیار کئے جاسکیں گے۔

اس فنسر تاریخ کے اوراق میں دارالعلوم کے اس قلمی چہرے کے ساتھ اس کے عکسی چہرے (فوٹو) بھی موقعہ موقودید ہیتے گئے ہیں۔ تاکہ دارالعلوم کی معنویت سے آشنا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی صورت سے بھی ایک حد تک شناسائی میسر آ جائے۔

اس نوعیت کے ساتھ یہ تاریخ (۱۶۸ صفحات پر ہے) ناظرین ہے۔ جس سے ہندو بیرون ہند میں اس کی سو سالہ سرگرمیوں اور غیر معمولی خدمات کا جائزہ لیا جاسکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے کہ اس ملک کی کوئی بھی علمی اور عملی، اخلاقی اور سیاسی، ملکی اور ملی، تعلیمی اور تبلیغی تحریک اس کے فیوض سے نہ ضر

یہ کہ خالی نہیں ہے بلکہ بہت حد تک اس کی قیادت اور اس کے فضلاں کی سیاست
کی روشن ملت ہے۔

دُوالَكَ فَضْلُ الْمُدْيُوتِيَّةِ مِنْ يَثَارَ

وَأَنَا الْعَذَالُ الْقَعِيْدَ

محمد طیب غفرلہ، جمیم دارالعلوم دیوبند

۱۵ محرم الحرام ۱۳۸۵ھ



مختصر تاریخ دارالعلوم دیوبند

تمسید

تیر میں صدی ہجڑی آخری سانس لے رہی تھی، ہندوستان میں اسلامی شوکت کا چراغ
گل ہو چکا تھا۔ صرف اٹھتا ہوا وصولاں رہ گیا تھا بوجپڑا بجھ جاتے کا اعلان کر رہا تھا،
دلی کا تخت مغل اقتدار سے خالی ہو چکا تھا صرف وصول کی منادی میں "ملک بادشاہ"
کا رہ گیا تھا۔ اسلامی شاہزاد رفتہ رفتہ زوال تھے۔ دینی علم اور تعلیم کا ہیں پشت
پناہی ختم ہو جاتے کی وجہ سے ختم ہو رہی تھیں۔ علمی خانوادوں کو زخم دین سے اکھائی
کا فیصلہ کیا جا چکا تھا۔ دینی شعور رخصت ہو رہا تھا اور جہل و ضلال مسلم قلوب پر
چھاتا چلا جا رہا تھا۔ مسلمانوں میں یمنی سنتوں کے بجائے جاہلی رسم و رواج، شرک
و بدعت اور ہوا پرستی وغیرہ زور پر پوتے جا رہے تھے۔ مشرقی روشنی پھیپھی جا رہی تھی۔
اور مغربی تہذیب و تدنی کا آنکاب طوع ہو رہا تھا۔ جس سے دہریت والحاد و فطرت
پرستی اور بے قیدی نفس اڑاوی فکر اور بیانی کی کرنی پھوٹ رہی تھیں جس سے
لگاہیں خیر و ہوچلی تھیں اسلام کی جیتی جاگتی تصور بیمار آنکھوں میں وضنی نظر آئے
لکی تھی اور اسی وضنی کہ اسلامی خدو خال کا پہچاننا بھی مشکل ہو چکا تھا۔
چون اسلام میں خزان کا در درہ تھا، خوش آواز اور شیریں ادا
پرندوں کے نرم میں مدھم ہوتے جا سہے تھے اور ان کی جگہ زاغ و زغم کی مکروہ آوازوں

نے لے لی تھی یہ اور اسی قسم کے اور ہزار ہا جواہر اور المناک واقعات کے چند اجمالی عنومنات ہیں جن سے اس وقت کے ہندوستان کی مسماں فضایا کا اندازہ لگانا چنان مشکل نہیں اند کے یا تو بگفتہم و بدلت رسمیدم کہ ازول آزر وہ شوی مردہ عن بن بیمار است ان حالات سے یقین ہو چلا تھا کہ اسلام کا پھن اب اجڑا اور یہ کہ اب ہندوستان بھی اپنیں کی تاریخ دہرانے کے لیے کربستہ موجہ کا ہے کہ چند نفوس قدسیہ نے بالہام خداوندی اپنے دل میں ایک خلش اور کسک محسوس کی۔ یہ خلش علوم بیوت کے تحفظ دین کو بجا نے اور اس کے راستے سے ستم رسیدہ مسلمانوں کو بجا نے کی تھی۔ وقت کے یہ اولیاء اللہ ایک جگہ جمع ہوئے اور اس بارہ میں اپنی اپنی قلبی واردات کا تذکرہ کیا جو اس پر مجتمع تھیں کہ اس وقت بقائے دین کی صورت بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ دینی تعلیم کے ذریعہ مسلمان ہند کی حفاظت کی جائے اور تعلیم و تربیت کے راستے سے ان کی بقا رکاسامان کیا جائے اور اس کی واحد صورت یہ ہی ہے کہ ایک درسگاہ قائم کی جائے جس میں علوم نبووہ پڑھائے جائیں اور ان ہی کے مطابق مسلمانوں کی دینی، معاشرتی اور تقدیمی زندگی اسلامی سانچوں میں ڈھانی جائے جس سے ایک طرف تو مسلمانوں کی داخلی رسمتائی ہو۔ اور دوسری طرف خارجی مدافعت نیز مسلمانوں میں صحیح اسلامی تعلیمات بھی پھیلیں اور یا ماندلا سیاسی شور بھی بیدار ہو۔ ان مقاصد کے لیے کہ پاندھ کراٹھنے والے یہ لوگ رسمی قسم کے رہنما اور لیڈر نے تھے بلکہ خدار رسیدہ بزرگ اور اولیاء وقت تھے اور ان کی یہ باہمی گفت و شنید کوئی رسمی قسم کا مشورہ یا تباہ لار خیال نہ تھا۔ بلکہ تباہ لار الہامات تھا جیسا کہ میں نے حضرت مولانا جیب الرحمن صاحب عثمانی رحمہ اللہ عنہم سادس دارالعلوم دیوبند سے مناک وقت کے ان تمام اولیاء اللہ کے قلوب پر بیک وقت یہ الہام ہوا کہ اب ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ و بقائی واحد صورت قیام مدرسے ہے چنانچہ اس مجلس مذاکروں میں کسی نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حفظ دین و مسلمین کے لئے اب ایک مدرسہ قائم کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ مجھے کشف ہوا ہے کہ ایک مدرسہ قائم ہو۔ کسی نے کہا کہ میرے قلب پر وار ہوا ہے کہ مدرسہ کا قیام ضروری ہے

کسی نے بہت صریح لفظوں میں کہا کہ مجھے منجانب اللہ الہام کیا گیا ہے کہ ان حالات میں تعلیم دین کا ایک مدرسہ قائم ہونا ضروری ہے۔ ان اہل اللہ کا اس تباہ لار واردات کے بعد قیام مدرسہ پر حکم جلیسا درحقیقت حالم غیب کا ایک مرکب اجماع تھا جو قیام مدرسہ کے بارہ میں منجانب اللہ واقع ہوا۔

اس سے جہاں یہ واضح ہے کہ اس وقت کے ہندوستان میں قیام مدرسہ کی تجویز کوئی رسمی تجویز نہ تھی بلکہ الہامی تھی وہیں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس تجویز کے پردہ میں حاکم گیر اصلاح کی اپرٹ چیپی ہوئی تھی جو محض مقامی یا ہنگامی نہ تھی کیونکہ اسلامی شوکت ختم ہو جانے کا اثر بھی مقامی نہ تھا۔ جس کے تلاک کی فکر تھی۔ وہ پوسے حاکم پر پڑ رہا تھا اس لئے اس کے وفیعہ کی یہ ایمانی رنگ کی تحریک بھی مقامی انداز کی نہ تھی بلکہ اس میں عالمگیری پہنچا تھی۔ گواہنہ میں اس کی شکل ایک چھوٹے سے تخم کی سی تھی مگر اس وقت اس میں ایک تناور شجرہ طیبہ پٹا ہوا تھا جس کی جڑیں پختے ناکوں کی زین میں پھیلی ہوئی تھیں اور شاخیں آسمان سے باقی کر رہی تھیں اس سلسلہ نفوس قدسیہ کے سر زادہ جنتۃ الاسلام حضرت اقدس مولانا محمد قاسم صاحب نافوتی قدس سرہ تھے جنہوں نے اس غلبی اشارہ کو سمجھا اور اسے ایک تجویز کی صورت دی۔

بناۓ دارالعلوم

کچھ وقت گزر نے کے بعد یہ مبارک تجویز علیہ صورت یہ
نحو و اینوں اور ۱۵ محرم الحرام ۱۳۸۳ھ مطابق ۲۴ مئی ۱۹۶۴ء
کو دارالعلوم کی بناء رکھ دی گئی

بناء رکھنے کی تفصیلات سوانح قاسمی میں ملیں گی۔ اس بناء میں خصوصیت ہے حضرت حاجی سید عبدالحسین صاحب قدس سرہ حضرت مولانا ذوالقطائعی صاحب قدس سرہ اور حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب قدس سرہ قابل ذکر ہیں جن کا ہاتھ ابتدائی سے تا میں مدرسہ میں تھا۔ یہ حضرت خصوصیت سے حضرت نافوتی قدس سرہ کے دست و بازو رہے ہیں اور بناء مدرسہ کے بعد بھی اس کی ذمہ دار مجلس کے رکن رکن کی حیثیت سے مدرسہ کے تمام امور میں عملًا شریک رہے ہیں، بعد میں حضرت اقدس مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مجلس خیر کے رکن ہوئے اور بالآخر حضرت نافوتی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد و ایام پر دارالعلوم کے ہدیدہ اہتمام پر فائز ہوئے اور آپ کا ہدیدہ اہتمام خیر و بركت کا سرچشمہ ثابت ہوا۔ دارالعلوم کی معنوی بنائے تو حضرت نافوتی قدس سرہ نے آٹھ اصول تحریر فرمائے جو اس ادارہ میں تمام قوانین کے لئے اساس و بنیاد کا درجہ رکھتے ہیں اور حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آٹھ اصول علی تجویز فرمائے جو اس ادارہ کے نظم و انتظام کی اساس و بنیاد ہیں۔ دونوں بزرگوں کے اصول ہشتگانہ درج ذیل ہیں جو اس دارالعلوم کی حکمت علی اور نظم و انتظام کی اساس ہیں۔

اساسی اصول ہشتگانہ

از جمیع الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نافوتی قدس سرہ
بانی دارالعلوم دیوبند

(۱) اصل اول یہ ہے کہ تمام قدر کارکنان مدرسہ کی ہمیشہ تکمیر چندہ پر نظر رہے۔ آپ کو شش کریں اور وہ سے کرائیں۔ خیر انڈیشاں مدرسہ کو ہمیشہ یہ بات محفوظ رہے۔
(۲) ابقام طعام طلبہ بلکہ افراد اس طعام طلبہ میں جس طرح ہو سکے خیر انڈیشاں مدرسہ ہمیشہ سامنی رہیں۔

(۳) مشریان مدرسہ کو ہمیشہ یہ بات محفوظ رہے کہ مدرسہ کی خوبی اور اسلامی ہو۔ اپنی بات کی پڑخ نہ کی جائے۔ خدا نخواستہ چہ اس کی نوبت آتے گی کہ اہل مشورہ کو اپنی حیثیت رائے اور اور وہ کی رائے کے موافق ہونا ناگوار ہو تو پھر اس مدرسہ کی بنیاد میں تزلزل آجائے گا۔

القصد تعلیم سے بر وقت مشورہ اور نیز اس کے پس و پیش میں اسلامی مدرسہ محفوظ رہے۔ سخن پروری نہ ہو اور اس لئے ضروری ہے کہ اہل مشورہ اظہار رائے میں کسی وجہ سے متأمل نہ ہوں اور سامعین پر نیت نیک اس کو نہیں یعنی یہ خیال رہے کہ اگر دوسرے کی بات سمجھ میں آجائے گی تو اگرچہ ہمارے مخالفت ہی کیوں نہ ہو بل و جان قبول کر شیخے اور اسیوں جس سے یہ ضرور ہے کہ ہم تم امور مشورہ طلب میں اہل مشورہ سے ضرور مشورہ کیا کرے۔ خواہ وہ لوگ ہوں جو ہمیشہ مشیر مدرسہ رہتے ہیں یا کوئی فاروس مادر جو علم و عقل رکھتا ہو اور مدرسوں کا خیر انڈیشاں ہو۔ اور نیز اسیوں جس سے ضرور ہے کہ اگر اتفاقاً کسی وجہ سے مشورہ کی نوبت نہ آئے اور بقدر ضرورت اہل مشورہ کی مقدار معتدیہ سے مشورہ کیا گیا ہو تو پھر وہ شخص اس وجہ سے تاخوش نہ ہو کہ مجھ سے کیوں نہ پوچھا۔ ہاں اگر ہم نے کسی سے نہ پوچھا تو پھر ہر اہل مشورہ معتبر ہو سکتا ہے۔

(۳) یہ بات بہت ضروری ہے کہ مدرسین مدرسہ باہم متفق المشرب ہوں اور مشل علمائے روزگار خود میں اور دوسروں کے درپیش تھیں نہ ہوں۔ خدا خواستہ حب اس کی نوبت آئے گی تو پھر اس مدرسہ کی خیر ہوں گی۔

(۴) خواندگی مقررہ اسی انداز سے جو پہلے تجویز ہو چکی ہے یا بعد میں کوئی اور اندازہ شروع سے تجویز ہو پوری ہو جایا کرے ورنہ یہ مدرسہ اول تو خوب آباد نہ ہوگا اور اگر ہوگا تو بے فائدہ ہوگا۔

(۵) اس مدرسہ میں جب تک آمدنی کی کوئی سبیل یقینی نہیں جب تک یہ مدرسات امام اللہ بشرط توجہ ای ائمہ اسی طرح چلے گا اور اگر کوئی آمدنی اسی یقینی حاصل ہو گئی جیسے جاگیر بیان کار خانہ تجارت یا کسی امیر محکم القبول کا وعدہ تو پھر یوں نظر آتا ہے کہ یہ خوف و رجا جو سرمایہ رجوع الی اللہ ہے ہاتھ سے چاتار پے گا اور امداد خوبی موقوف ہو جائے گی اور کارکنوں میں باہم نزاٹ پیدا ہو جائے گا۔ الفضل آمدنی اور تعمیر و غیرہ میں ایک نوع کی بے سروسامانی رہے۔

(۶) سرکار کی شرکت اور املاک کی شرکت بھی زیادہ مضر معلوم ہوتی ہے۔

(۷) تامقدور ایسے لوگوں کا چندہ موجود برکت معلوم ہوتا ہے جن کو اپنے چندے سے عینہ ناموری نہ ہوں بالجملہ حسن نیت اہل چندہ زیادہ پائیداری کا سامان معلوم ہوتا ہے۔

انتظامی اصول ہشتہ گانہ

از حضرت مولانا شاہ فیض الدین صاحب حجۃ اللہ علیہ، صہب مدرسہ دارالعلوم دیوبند

(۱) ہر کار خانہ کے امور جنریئر کی بتا ایک شخص کی راستے پر رہنی چاہئے۔ اسی قاعدہ پر اس کار خانہ کے امور جنریئر کے انجام میں کسی صاحب کو اہل مشورہ میں سے داخل ہو الامشوڑ اور راستے کو اپنے موقع پر اظہار فرمادیں جیسا اہل شوری مل کر پسند کریں۔

(۲) امور جنریئر میں جو کوئی صاحب بندہ کے مدرسگار ہوں گے یا اچھا مشورہ دیں گے بندہ

ان کا مشکوہ ہو گا مگر انجام ان کا موقف بندہ ہی کی راستے پر رہنا چاہئے۔

(۳) جس کسی صاحب کو خواہ اہل شوری خواہ اور عام خلق، کوئی امر قابل اعتراض معلوم ہو تو، ہتھم سے مراجحت نہیں جلد شوری میں پیش کر کے اس کو طے کر لیں اور جیسا فراز پاسے اس کے انجام پر ہتھم کو عذر نہ ہو گا۔

(۴) مشورہ کے جلسے جب کبھی ہوں بے حاضری ہتھم نہ ہوں گے اگرچہ اس کی ہی کسی بات پر خورده ہو اور یوں اہل شوری کو اغتیار احترام کا ہر وقت ہے اور ہتھم کو موقع جواب کا۔

(۵) ہتھم اگر اہل شوری کے اجتماع تنگ کی امراض روی کے انجام پر انتظار نہ کر سکے تو بذریعہ خط سب صاحبوں کو اطلاع دیگا اور اس ضروری امر کو سب صاحبوں کو قبول کرنا ہو گا۔

(۶) آمدنی مدرسہ کی ہتھم کے ہاتھ میں رہنے گی کیونکہ صرف ضروریہ کیلئے کسی قدر روپیہ ہتھم کے ہاتھ میں رہنا ضروری ہے حاجت ضروری سے زیادہ روپیہ جب جمع ہو جایا کرے گا تو خرانچی کے پاس جمع کر دیا جائے گا۔

(۷) ہر روز وقت مقررہ مدرسہ پر ہتھم مدرسہ میں جایا کرے گا اور اسی وقت میں امور مختلفہ مدرسہ کو انجام دیا کرے گا۔

(۸) مناسب ہے کہ سب اہل شوری مل کر اپنے دستخط اس معروفہ پر فرمادیں کہ ہتھم کو جائے مندرجہ ہے۔

دستخط۔ العبد محمد قاسم۔ دستخط العبد ذوالفقار علی۔ دستخط العبد محمد عابد (تحریر سردازیقعدہ شیخ)

دارالعلوم کی تاسیس اور پیشین گوتیاں

دیوبند کی ایک چھوٹی سی مسجد میں جسے چشتہ کی مسجد کہتے ہیں۔ ایک انار کا درخت ہے اسی درخت کے نیچے سے آب جیات کا چھپہ چھوٹا اور اسی چھپہ نے ایک حرف تو دین کے پیش کی آبیاری شروع کر دی اور دوسری طرف اس کی تیز و تند رونے شرک۔ بدعت فطرت پرستی، الحاد و درہریت اور آزادی فلک کے اُن خش و خاشاک کو بھی بہانا اور راستے سے پہنانا شروع کر دیا جنہوں نے مسلمانوں کے قلوب میں جڑ پکڑ کر انہیں یہ روز بند فکھایا تھا

یورپ سے ہندوستان پہنچا۔ اور یہ نعرہ باند کیا کہ ”ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تباہ کرنا ہے جو رنگ اور نسل کے لحاظ سے ہندوستانی ہوں اور دل و دماغ کے لحاظ سے انگستافی ہوں۔“ یقیناً آوازہ جب کہ ایک فاتح اور برسر اقتدار قوم کی طرف سے اٹھا اور تھا بھی وہ تعلیم کا جو بذابت خود ایک انقلاب آفرین حریر ہے تو اُس نے ملکت کو ذہنی انقلاب کا خاطر خواہ اشڑا۔ اس تعلیم سے ایسی نسلیں اُجھرنی شروع ہو گیں جو اپنے گوشہ پورست کے لحاظ سے یقیناً ہندوستانی تھیں۔ لیکن اپنے طرز فکر اور سوچنے کے

رنگ کے اختیار سے انگریزی جامدیں نمایاں ہونے لگیں۔ اسی ذہنی مگر خطرناک انقلاب کو دیکھ کر یافی دارالعلوم حضرت مولانا محمد قاسم صاحب تاؤتوی قدس سرہ نے دارالعلوم قائم کر کے اپنے عمل سے یہ نعرہ باند کیا کہ

”ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو رنگ و نسل کے لحاظ سے ہندوستانی ہوں اور دل و دماغ کے لحاظ سے اسلامی ہوں۔ جن میں اسلامی تہذیب تدن کے جذبات بیدار ہوں اور دین و سیاست کے لحاظ سے اُن میں اسلامی شعور زندہ ہو۔ اس کا ایک ثمرہ یہ نکلا کہ مغربیت کے ہمگیر اشتراط پر بریک لگ گیا اور بات یک طرف نہ رہی بلکہ ایک طرف اگر مغربیت شعار افراط نے جنم دینا شروع کر دیا تو دوسرا طرف مشرقیت نواز اور اسلامیت طراز جنبدی بھی برادری کے درجہ میں سامنہ آنا شروع ہو گیا جس سے یہ خطروں باقی نہ رہا کہ مغربی سیلاب سارے خشک و تر کو یہاں بجا رکھا بلکہ اگر اس کی روکاریلا ہہا و پر آئے گا تو ایسے بند بھی باندھ دیتے گئے ہیں جو اُسے آزادی سے آگے نہ بڑھنے دیں گے۔ بہر حال وہ ساعت محمود اگری کی مدرسہ کا آغاز ہوا اور اُس کی یہ تعمیر و دفاع کی مل جلی تعلیم عملاً ساخت وجود پر آگئی۔ مل جمود دیوبندی نے اجو حضرت بانی دارالعلوم کے امر پر مدرسہ دیوبند کا یہ تعلیمی منصوبہ جاری کرنے کے لئے بحیثیت مدرس میر ڈھ سے دیوبند تشریف لاتے۔ ۱۰۰۰ اپنے سامنے ایک شاگرد کو (کہ اُن کا نام بھی محمود ہی تھا) اور آخر کار شیخ الہند مولانا محمود حسن کے لقب سے دنیا میں مشہور ہوئے) بھاگر کسی عمارت میں نہیں جو مدرسہ کے نام سے بنائی گئی ہو بلکہ چھتہ کی مسجد کے کھلے صحن میں ایک اندر

بانی دارالعلوم کا یہ خواب کہ ”میں خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہوں اور میرے ہاتھوں اور پرلوں کی دسوی انگلیوں سے نہ ری جا ری ہیں اور اطرافِ عالم میں پھیل رہی ہیں۔“ پورا ہوا اور مشرق و مغرب میں علومِ نبوت کے چشمے جاری ہونے کی راہ ہوا ہو گئی۔ دارالعلوم کے چہ تم شانی حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب جہاں بدقیق قدر سرہ کا یہ خواب کہ ”علوم دینی کی چاہیاں میرے ہاتھ میں دے دی گئی ہیں۔“ خواب ہی درہ بلکہ حقیقت کے لباس میں چلو گر ہو گیا۔

اور اس مدرسہ کے ذریعہ ان چاہیوں نے اُن قلوب کے تالے کھول دیتے جو علم کا ظرف تھے یا ظرف بننے والے تھے جن سے علم کے سوتے ہر طرف سے پھوٹنے لگے اور چند نفوں قدسیہ کا علم آن کی آن میں ہزار ہا علامہ کا علم ہو گیا۔ حضرت سید احمد شہید راتے پریلوئی دیوبند سے گذرتے ہوئے جب اس مقام پر ہنچے تھے جہاں دارالعلوم کی عمارت کھڑی ہوتی ہے تو فرمایا تھا کہ ”جسے علم کی بوآتی ہے،“ پس وہ خوشبو جس کو سید صاحبؒ کی روحانی قوت شامہ نے سوٹھا تھا ایک سدا ہمار گلاب کے پھول بلکہ گلاب آفرین درخت کی شکل میں آگئی جس سے ہزاروں پھول کھلتے اور ہندوستان کا اجڑا ہوا چون تختہ گلاب بن گیا کے معلوم تھا کہ یہ خوشبو نیج بنے گی، بیچ سے کلی کھلتے گی، شگفتہ کلی سے پھول بنے گی، پھول سے گلدستہ بنے گی اور اس گلدستہ کی خوشبو سے سما عالم انسانی جہک اٹھتے گا۔ اور کے پتہ تھا کہ ایشیا کی فضائیں مغربی استعماریت کے جو جراثیم پھیلے ہوئے ہیں وہ اس کی جراحت کش جہک سے آپ ہی اپنی موت منے شروع ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس وقت کے برطانوی ہند میں فاتح قوم را انگریز کو فکر تھی کہ ہندوستان کے دل و دماغ کو یورپ میں ساپنگوں میں کس طرح ڈھالا جائے جس سے برطانویت اس نک میں جڑ پکڑ سکے۔ ظاہر ہے کہ دل و دماغ کے بدل دینے کا واحد ذریعہ تعلیم ہو سکتی تھی۔ جس نے تہمیش اُن ساپنگوں میں دلوں اور دماغوں کو ڈھالا ہے جن کو لے کر تعلیم آگے آئی ہے اس لئے ہندوستان کو فرنگی رنگ میں ڈھالنے کے لئے لارڈ میر کا لے نے تعلیم کی ایک جمیش کی اور وہ اسکولی اور کالجی تعلیم کا نقشہ کر

کے درخت کے سایہ میں بیٹھ کر اس مشہور عالم درسگاہ دارالعلوم دیوبند کا افتتاح کر دیا تھا کوئی مظاہر و تھانہ شہرت پسندی کا روا کار و جذبہ نہ نام و نمود کی تڑپ تھی۔ اور نہ پورش و اشتہارات کی بھرمار۔ بس ایک شاگرد اور ایک استاد، شاگرد بھی محمود اور استاد بھی محمود، دو فرستے یہ لاکھوں کے ایمانوں کی حفاظت کی ایکم معرض وجود میں آگئی۔ سادگی اور تدریت ایمان کا دور و وہ شروع ہو گیا جو سنت ہبھی اور اتباع سلفت کی روح ہے مقصد و ترقہ تھا نہ تنعم، نہ تعیش نہ تزویں نہ تفاخر نہ تکا شبل کی صرف "ما ان علیہ الیوم و اصحابی" کا مرتع بنانا اور "علیکم ابستمی الم" و "وابقی سبیل من انا ب الی" کی سیدھی راہ کی عملی تصویر کیجیئن تھی۔ اور اس تصویر کی شی میں کمال احتیاط و اعتدال بھی پیش نظر تھا کہ صراط مستقیم کے یخطوط کہیں ان بہتر فرقوں کے خطوط سے نہ جائیں جنہیں شریعت کی اصطلاح میں سُبْلِ متفرقہ کہا گیا ہے۔

اپنا ہے وہ طریقہ کہ باہر ہر دس سے ہے،
اس لئے جامعیت و اعتدال اور دین و وانش کے ملے جملے اندازوں کے ساتھ اس درسگاہ میں تعلیم و تربیت کا خط مسْتَقیم کھینچی گیا —————

دارالعلوم دیوبند کا سلسلہ سند حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب فاروقی قدس سرہ العزیز میں گذرتا ہوا، بھی کریم قلائل علیہ وسلم تک جا پہنچتا ہے۔ شاہ صاحب اس جماعت دیوبند کے مورث اعلیٰ میں جن کے مکتب تھوڑے اس جماعت کی تشکیل ہوئی حضرت مدد حنفی نے اولاً اس وقت کے ہندوستان کے فلسفیان مزاج کو اچھی طرح پر کھا پھر علوم شریعت کو ایک مخصوص جامع عقل و نقل طرز میں پیش فرمایا۔ جس میں نقل کو عقل کے جامد میں مبوس کر کے نمایاں کرنے کا ایک خاص حکیما نہاد زپہبائی تھا۔ جمیع الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نافوتی قدس سرہ بانی دارالعلوم دیوبند نے ولی اللہی سلسلہ کے تلذیس سے اس رنگ کو نہ صرف اپنایا جوانہ ہیں ولی الشہی خاندان سے ورثہ میں ملا تھا۔ بکھر مزید تینور کے ساتھ اس کے نقش و نگاریں اور رنگ بھرا، اور وہی منقولات جو حکمت

دلی اللہی میں معقولات کے لباس میں جلوہ گرتھے حکمت قاسمیہ میں محسوسات کے لباس میں جلوہ گر ہو گئے۔ پھر اپ کے سہل متنع انداز بیان نے دین کی انتہائی گہری حقیقتوں کو جو بلہ شبہ علم لدھی کے خزانہ سے ان پر بالہام غیب منکشف ہوئیں، استادی اور طیاق رنگ میں آج کی خونگر محسوس یا حس پرست دنیا کے سامنے پیش کر دیا اور ساتھ ہی اس خاص مکتب تھکر کو جو ایک خاص طبقہ کا سرمایہ اور خاص حلقة تک محدود تھا، دارالعلوم دیوبند جسیے تھے گیر اور اس کے ذریعہ ساری اسلامی دنیا میں پھیلایا۔ اس نے کہا جا سکتا ہے کہ ولی اللہی مکتب تھکر کے تخت دیوبندیت و تحقیقت قاسمیت یا قسمی طرز فلکر کا نام ہے۔ حضرت نافوتی قدس سرہ کے وصال کے بعد اس دارالعلوم کے سر پرست ثانی قطب ارشاد حضرت مولانا شیداحمد صاحب گنگوہی قدس سرہ نے قاسمی طرز تھکر کے ساتھ دارالعلوم کی تعلیمات میں فتحی رنگ بھرا جس سے اصول پسندی کے ساتھ فروع فتحیہ اور جزئیاتی تربیت کا قوام بھی پیدا ہوا اور اس بطرح فتحہ اور فتحہ کے سرمایہ کا بھی اس میراث میں اضافہ ہو گیا !

ان دونوں بزرگوں کی وفات کے بعد دارالعلوم کے اولین صدر مدرس جامع العلوم اور شاہ عبدالعزیز شانی حضرت مولانا محمد بیغ قوب صاحب قدس سرہ نے جو حضرت بانی دارالعلوم سے سلسلہ تلمذ بھی رکھتے تھے، دارالعلوم کی تعلیمات میں عاشقانہ، والہانہ اور مجد و باش جذبات کا رنگ بھرا جس سے یہ صہیاتے دیانت سما۔ اتش ہو گئی۔

آپ کے وصال کے بعد دارالعلوم دیوبند کے سر پرست ثالث شیخ البند حضرت مولانا محمد الحسن صاحب قدس سرہ صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند جو حضرت بانی دارالعلوم قدس سرہ کے تلبیذ خاص بلکہ علم و عمل میں نمونہ خاص تھے ان تمام الوان علوم کے حافظا ہوئے اور انہوں نے چالیس سال دارالعلوم کی صدارت تدریس کی لائن سے علوم و فنون کو تمام منظقه ہائے اسلام میں پھیلایا اور ہزار ہاتھوں گان علوم ان کے دریافتے علم سے سیراب ہو کر اطراف میں پھیل گئے اس لحاظ سے یوں سمجھنا چاہئے کہ شاہ ولی اللہ صاحب قبضہ مسروج جماعت دارالعلوم کے جدا جد ہیں، حضرت نافوتی قدس سرہ جد قریب حضرت گنگوہی اور حضرت مولانا محمد بیغ قوب صاحب

نانو تویی آخ الجد اور حضرت شیخ الہند بمنزلہ پدر بزرگوار ہیں۔ علمی حیثیت سے یہ ولی اللہی جماعت مسکن کا اہل سنت مم وارا العلوم کا مسلک [والجماعت ہے جس کی بنیاد کتاب و سنت اور اجتماع و قیاس پر قائم ہے اُس کے نزدیک تمام وسائل میں اولین درجہ نقل و روایت اور آثار سلف کو حاصل ہے جس پر پوچھے دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے اس کے یہاں کتاب سنت کی مراوات اقوال سلف اور ان کے متوارث مذاق کی حدود میں محدود و رکھنے کی قوت مطابعہ سے نہیں بلکہ اساتذہ اور شیوخ کی صحبت و ملازمت اور تعلیم و تربیت ہی سے متعین ہو سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ عقل و رایت اور تفہیم الدین بھی اس کے نزدیک فہم کتاب سنت کا ایک بڑا ہم جزو ہے، وہ روایات کے مجموعے سے حنفی فقہ کی روشنی میں شارع علیہ السلام کی غرض فایات کو سامنے رکھ کر تمام روایات کو اسی کیساتھ وابستہ کرتا ہے اور سب کو درجہ بدرجہ اپنے مبنی اسی طرح چسپاں کرتا ہے کہ وہ ایک بھی زنجیر کی کڑیاں دکھانی دیں اس یہے مجمع بین الرؤایات اور تعارض کے وقت تطبیق احادیث اس کا خاص اصول ہے جس کا منشا یہ ہے کہ وہ کسی ضعیف سے ضعیف روایت کو بھی بچوڑنا اور ترک کر دیا نہیں چاہتا جبکہ کوہ قابل احتجاج ہوا سی بنا پر اس جماعت کی زگادیں نصوص شرعیہ میں کہیں تعارض اور اختلاف نہیں گوس ہوتا بلکہ سارے کاسارا دین تعارض اور اختلاف مبترا ہ کہ ایک ایسا گلہستہ دکھانی دیتا ہے جس میں ہر گانکے علمی عملی بچھوں اپنے موقع پر کھلے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی کیساتھ بطریق اہل سلوک جو روایات اور راجوں اور نمائشی حال قوال سے بیزار اور بیری ہے۔ تو زکر نیس اور اصلاح باطن بھی اس کے مسلک میں ضروری ہے۔ اس نے اپنے منتسبین کو علم کی رفتون سے بھی نوازا اور بعدیت و تواضع جیسے انسانی اخلاق سے بھی مزین کیا اور اس جماعت کے افراد ایک طوف علمی و قوار استغناً (علمی حیثیت سے) اور غفاریں (اخلاقی حیثیت سے) کی بندیوں پر فائز ہوئے ہیں فروتنی خاکساری اور ایثار و زبرد کے متواضعانہ جذبات سے بھی بھر پور ہوئے درعوٰۃ اور کبر و نجوت کا شکار ہوئے اور نہ ذاتی نفس اور مکانت میں گرفتار۔ وہ جہاں علم و اخلاق کی بندیوں

پر پہنچ کر عوام سے اونچے دکھائی دیئے گئے وہیں بھجوڑ دنیا ز تواضع و فروتنی اور لا امتیازی کے جوہروں سے ہر ہیں ہو کر عوام میں ملے جلے اور کا خدیمِ الناس "بھی سے ہے جہاں مجاهدہ و مراقبہ سے خلوت اپنے ہوئے وہیں جا ہے اس اور غازیانہ اپرٹ نیز قومی خدمت کے جذبات سے جلو آ رہیں شاہت ہوئے غرض علم و اخلاق خلوت و جلوت اور مجاهدہ و جہاد کے خلوط جذبات دواعی سے ہر وائرہ دین میں میں عتدال اور میانہ روی ان کے مسلک کی امتیازی شان بن گئی۔ جو علوم کی جماعتیت اور اخلاق کے اعتدال کا قدر قمہ ہے اسی لیے اُن کے محاذ ہوئے کے معنی فقیہ سے لڑنے یا فقیہ ہونے کے معنی محاذ سے بیزار ہو جانے یا نسبتہ احسانی (تصوف پسندی) کے معنی متكلم و شخصی یا علم کلام کی حدائقت کے معنی تصوف بیزاری کے نہیں بلکہ اس کے جامع مسلک کے تحت اس تعلیم کاہ کا فاضل درجہ پر درجہ بیک وقت محاذ، فقیر، مفسر، مفتی، متكلم، صوفی (حسن)، اور حکیم و مرثی شاہت ہوا جس میں زید و قناعت کیسا تھا عدم تشقیف، حیا، و انسار کیسا تھا عدم ملائیں، رافت و رحمت کے ساتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تلبی یکسوئی کیسا تھا قومی خدمت اور خلوت اور نجمن کے ملے جذبات راست ہو گئے، ادھر علم و فن اور تمام ارباب علوم و فنون کے باسے میں اعتدال پسندی اور حقوق شناسی نیز اوسی سی حقوق کے جذبات نہیں بطور جوہر نفس پیوست ہو گئے۔ بنابریں وہی شعبوں کے تمام ارباب فضل کمال اور سخین فی العلم خواہ محدثین ہوں یا فقیہا، صوفیا ہوں یا عرقا متكلمین ہوں یا اصولیں، امراء اسلام ہوں یا خلفاء اس کے نزدیک سب واجب الاحترام اور واجب العقیدت ہیں۔ اسلئے جذباتی رنگ سے کسی طبقہ کو بڑھانا۔ اور کسی کو گرانا یا مارح و ذم میں حدود شرعیہ سے بے پرواہ ہو جانما اس کا مسلک نہیں۔ اس جامع طریق سے دارالعلوم نے اپنی علمی خدمات سے شمال میں اسائیریا لیکر بجنوب میں سماڑا اور جاواہاک اور مشرق میں برماء لیکر مغربی سمتیوں میں عرب اور افریقہ تک علوم نبویہ کی روشنی پھیلا دی جس سے پاکیزہ اخلاق کی شاہراہیں صاف نظر آنے لگیں دوسری طرف سیاسی خدمات سے بھی اس کے فضلا نہ کسی وقت بھی پہلو نہیں نہیں کی حتیٰ کہ ۱۹۴۷ء سے ۱۹۵۷ء تک اس جماعت کے افزاد

نے اپنے اپنے رنگ میں بڑی سے بڑی قربانیاں پیٹیں کیں جو تاریخ کے اور اقی میں محفوظ ہیں کسی وقت بھی ان بزرگوں کی سیاسی اور جماعتی خلوت پر پروہنہیں ڈالا جاسکتا ہا لمحوں تیرھوں صدی بھری کے نصف آخر میں مغلیہ حکومت کے زوال کی ساعتوں میں حصہ سب سے حضرت شیخ المشائخ مولانا حاجی محمد امداد اللہ صاحب قدس سرہ کی سرپرستی میں ان کے ان دو مریداں خاص حضرت مولانا محمد قاسم صاحب اور حضرت مولانا شیخ محمد حسین اور ان کے منتس拜ین او مسٹو سلیمان کی مساعی انقلاب، جمادی اقدامات اور حربیں اتنا تسلی کی فراہ کارانہ جدوجہد اور گرفتاریوں کے وارثت پران کی قید و بند وغیرہ و تاریخی حقائق ہیں جو نہ بھٹلائی جاسکتی ہیں نہ بھٹلائی جاسکتی ہیں جو لوگ ان حالات پر محض اس لئے ہو ظالماً چاہتے ہیں کہ وہ خود اس را سفر و شی میں قبول نہیں کئے گئے تو اس سے خود ان ہی کی نامقابویت میں اضافہ ہو گا۔ اس بارہ میں ہندوستان کی تاریخ سے باخبر اور ارباب تحقیق کے نزدیک ایسی تحریریں خواہ وہ کسی دیوبندی الحدیث کی ہوں یا غیرہ دیوبندی کی جن سے ان بزرگوں کی ان جہادی خدمات کی نفعی ہوتی ہو لا یعنی اور قطعاً ناقابلِ اتفاقات ہیں۔ الگ صحنِ خلن سے کام لیا جائے تو ان تحریرات کی زیادہ توجہ صرف یہ کی جاسکتی ہے کہ ایسی تحریریں وقت کے مرعوب کن عوامل کے نتیجہ میں محض ذاتی حد تک حرم واحتیاط کا مظاہرہ ہیں۔ ورنہ تاریخی اور واقعاتی شواہد کے پیش نظر ان کی کوئی اہمیت ہے اور نہ وہ قابلِ اتفاقات ہیں۔ ان خدمات کا سلسہ مسلسل آگے تک بھی چلا اور انہیں متواتر جذبات کے ساتھ ان بزرگوں کے اخلاق رشید بھی سفر و شادہ انداز سے قومی اور ملی خدمات کے سلسلہ میں آگے آتے رہے خواہ وہ تحریک خلافت ہو یا استحلاس وطن اور بروقت انقلابی اقدامات میں اپنے منصب کے عین مطابق حصہ لیا۔ مختصر یہ کہ علم و اخلاق کی جماعت کا طریقہ امتیاز رہا اور وسعتِ نظری، روشن ضمیری اور واداری کیسا تھی دین و ملت اور قوم و وطن کی خدمت اس کی مخصوص شعار لیکن ان تمام شعبہ ہائے زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اس جماعت میں مشتعلہ تعلیم کو حاصل رہی ہے جب کہ یہ تمام شعبے علم ہی کی روشنی میں صحیح طریق پر برداشت کا راستے تھے۔ اور اسی

پہلو کو اس نے نمایاں رکھا۔ اس لئے اس مسلمان کی جماعت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جما عل و معرفت، جامع عقول عشق، جامع عمل و اخلاق، جامع مجاهد و جہاد، جامع ویانت و سیاست، جامع روایت و درایت، جامع خلوت و جلوت، جامع عبادت و مدینیت، جامع حکم و حکمت، جامع ظاہر و باطنی اور جامع حال و تعالیٰ ہے۔ اس مسلمان کو جو سلف و خلف کی نسبتوں سے حاصل شدہ ہے اگر اسطلاحی الفاظ میں لایا جائے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دارالعلوم دینا مسلم، فرقۃ اہل سنت والیہ عنت، مذہبیاً حنفی، مشربیاً صوفی، کلامیاً اشعری، سلوکاً حنفیتی بلکہ جامع سلاسل، نکر ادی اللہی، اصولاً قاسمی، هزوغرار شیدی اور نسبتاً دیوبندی ہے۔

ہس مسلمان میں جو بھر مسلمان دارالعلوم کے نام سے ہم نے ایک مستقل رسالہ لکھ دیا ہے اس لئے اس موقع پر اس کی زیادہ تفصیل کی تصریح مسوس نہیں کی گئی اس کے بعض جامع جملے اس تحریر میں یعنی گھٹے میں تفصیلات کے لئے اس رسالہ کی مراجعت کی جاسکتی ہے۔

دارالعلوم دیوبند کا مجموعی مذاق

اور اس کی ترتیبیت کا لخ

۱۸۵۴ء کے بعد کے دور میں جب کہ مسلمانوں کی شوکت ہندوستان سے پامال ہو چکی تھی اور حالات میں بھر انقلاب اور تبدیلی آجکل تھی دارالعلوم نے ان بدلتے ہوئے حالات میں جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ کہ مسلمانوں میں بیان افروزیں و مذہب و رجماۃ معاشرت تبدیلی نہیں ہونے دی کہ وہ حالات کی رو ہیں پہ جائیں۔ پھر انیں اور عمومیت کے ساتھ انہیں سلامی سادگی اور دینی ثقافت کے زائدہ و متنوکلادہ اخلاق پر قائم رکھا مگر اس حکمت کے ساتھ کہ عوام کی حد تک اندر ہوں گدو و جائز توسعات سے گریز نہیں کیا جو بدلتے ہوئے تہذیب و معاشرت میں طبعی طور پر ناگزیر تھا مگر خواص کی حد تک دائرہ وسیع نہیں ہونے دیا جس سے عام مسلمانوں میں اسلامی مدینیت کا سادہ فتنہ قائم رہا اور جدید تہذیب و معاشرت میں اختیار کی نقائی کا غلبہ

دارالعلوم کی مجاہس

دارالعلوم میں تین ذمہ دار مجاہس ہیں

۱۔ مجلس شوریٰ ۲۔ مجلس عاملہ ۳۔ مجلس علمیہ

۱۔ مجلس شوریٰ یہ مجلس دارالعلوم کی سب سے بڑی یا اختیار مجلس ہے۔ دارالعلوم کا نام نظم و نسق اسی جماعت کے باقی میں ہے اس کی جملہ تجادیز و ربارہ انتظام و قید قطعی اور جملہ کارکنان دارالعلوم کے لیے واجبہ التعمیل ہوتی ہے اس مجلس کے ارکان کی تعداد ۲۱ ہے جس میں کم از کم ۱۱ علماء کا ہونا ضروری اور لازمی ہے اور باقی ارکان مسلمانوں کے دیگر طبقات سے منتخب ہو سکتے ہیں مگر حقیقت الامکان دو ممبر پاشنڈ گان دین بند سے لئے جاتے ہیں۔ ہم تم اور صدر مدرس بھی شیخیت عہدہ مجلس شوریٰ کے کون رہتے ہیں۔ اس مجلس کے سال میں دو جلسے ہوتے ہیں۔ ایک حرم میں دوسرا جب ہیں۔ اس مجلس کا کوئی سات ہوتا ہے۔

۲۔ مجلس عاملہ یہ مجلس مجلس شوریٰ کے ماتحت ایک مستقل مجلس ہے جو مجلس شوریٰ کے فیصلوں اور منظور کردہ تجادیز کے عمل و رائد کے سلسلہ میں ذمہ دار یوں کے طرقی عمل پر نظر رکھتی ہے نظم و تعلیم اور وفات کے صفات کی کارکردگی کی نگرانی اس کے ذمہ رہے اس مجلس کے ارکان کی تعداد نو ہے۔ ہم تم اور صدر مدرس باعتبار عہدہ اس کے مستقل رکن ہوتے ہیں، بقیہ سات ممبر مجلس شوریٰ کے ارکان میں سے منتخب کئے جاتے ہیں۔

اس مجلس کا انتخاب سالانہ ہوتا ہے۔ مجلس عاملہ کے سال بھر میں چار جلسے ہوتے ہیں پہلا یعنی الیکل میں مدرس احادیث لااقل تیر شعبان میں اور تجویہ ذی القعده میں مجلس عاملہ کا کوئی پانچ ہے سم۔ مجلس علمیہ تمام درجات عربی، فارسی، اردو، وینیات اور تجوید و غیرہ کے تعلیمی کاموں میں صدر المدرسین کو مشورہ دینے کے لیے ایک مجلس ہے جس کا نام مجلس علمیہ ہے۔ اس کے ممبران میں صدر المدرسین، ہم تم دارالعلوم اور اسلامیہ طبقہ اعلیٰ شامل ہیں۔

نہیں ہو سکا اور اسلامی خیرت و محیت باقی رہ گئی، مرعوبیت اور احساس کتری قلوب ہیں جنہیں نہیں پایا خصیر کی حریت و آزادی کا پورا پورا تحفظ کیا اور اتباع اغیار کے بجائے سخت نیروں کو معیار زندگی بنانے کے جذبات قلوب میں ابھا سے جس سے عام نہدن و معاشرت میں پریزگاری اور تقویٰ و طہارت کے دوائی انجاگر رہے۔

بلحاظ حقیقت یہ سب کچوں کا غرہ تھا کہ دارالعلوم اور اس کے پروردوں کے سکافر زندگی کے معاملات کی اساس و بنیاد فلسفة اور عقلي شخص پر نہیں تھی بلکہ انبیاء علیهم السلام کے ڈائے ہوئے راست پر یعنی محبت و عشق پر تھی جو ایمان کا بنیادی جوہر اور غالب عضر ہے فلسفہ اختراعات اور آزلوی فکر کی راہے جاتا ہے اور عشق و محبت اتباع و ادب کی راہ چلتا ہے۔ فلاسفہ کی بنیاد چونکہ عقلی اختراعات پر ہے اسلئے الگ الگ پہنچ کی تحقیق اور تغییریں کو اپنا دبھی حق سمجھتا ہے اور نسبت کی بنیاد چونکہ وجہ اور عشق و محبت خداوندی پر ہے اس لئے ہر اگلہ سیغیر پچھلے سیغیر کی تصدیق و محبت کو جزو ایمان بتاتا ہے۔ اندر وہی جذبات کا یہی فرق فلاسفہ اور انبیاء کے متبوعین میں بھی ہے پس دارالعلوم کے حفاظت و تربیت اور تعلیم و تدین کا اہم جزو چونکہ الہی کے ساتھ ہمہ وقتی شغل و اشتغال و رفتار و قال اللہ و قال الرسول ہی کا نامہ تر مشغله تھا اس لئے طبعی طور پر اس کے حلقوں میں ادب اور اتباع اور عشق و محبت کی بنیادیں ستوار ہوئیں اور ان کا اثر اور پرکی تعمیر یعنی دیانت معاشرت اور عادات و عبادات میں آناناگزیر تھا اس لئے اس نے بدلتے ہوئے حالات پر پچھلے کے نقش قدم کو برقرار رکھا اور زمانہ کی رو میں عوام کو کلپیتہ بہنے نہیں دیا اور اس کی اس عزیزیت کی عظمت و ستوں اور مخالفوں سب نے تسلیم کی۔

لیکن جن بزرگوں نے اس دور میں اپنے حسن نیت اور اخلاق سے ہندوستانی مسلمان کی عزت نفس اور زمانہ کے تقاضوں کے مطابق ان کی ماوی سلطنتی کیلئے عسائی انجام دیں ان سے کبھی آؤیزش نہیں کی البتہ ان کے اقدام سے اگر دن یاد ہی ذوق اور دین کے کسی عقیدہ و عمل کو متاثر ہوتے دیکھا تو اس کا لکھ کر مقابلہ کیا اور اس طرح امکانی حد تک ان میں آزاد فکری، آزاد روشنی اور بے قیدی کی مدخلت کے راستے روکے۔

دارالعلوم کو کے شعبہ جات

دارالعلوم دیوبند کے شعبہ جا کوئین حصہ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے

(و) **تعلیمی شعبہ جات (ب) انتظامی شعبہ جات (ج) مالی شعبہ جات**

(۱) **تعلیمی شعبہ جات کے ماتحت حسب فیل شعبہ جات آجاتے ہیں**

(۱) **شعبہ تعلیم عربی:** اس میں میزان الصرف سے بیکردارہ حدیث تک کی تعلیم ہوتی ہے اگرچہ

کتابیں تقریباً سب عربی میں ہیں مگر ذریعہ تعلیم اردو زبان سے اس شعبہ کا نصاب بھی مسلسل کا ہے

(۲) **شعبہ تعلیم فارسی:** اس شعبہ میں زبان فارسی کی تعلیم اپنے سے لیکر شنوی مولانا گروہ ملک

ہوتی ہے یہاں بھی ذریعہ تعلیم اردو زبان ہے۔ فارسی زبان کے علاوہ نصاب انقیاد، جغرافیا،

ہندی اور تاریخ وغیرہ بھی نصاب میں داخل ہے۔ اس شعبہ کا نصاب ۵ سال کا ہے۔

(۳) **شعبہ تجوید فقراء:** اس شعبہ میں تمام طلبہ کو لازمی مضمون کے طور پر پارہ علم کی مشق قوام

فی تجوید کے ماتحت گرانی جاتی ہے جس کے بغیر طالب علم کو سند الفراغ نہیں دی جاتی اور جو طلبہ باقاعدہ

ہے اور تجوید کے بعد اس درجہ کی مستقل سند بھی دی جاتی ہے۔

(۴) **شعبہ تعلیم قرآن شریعت ناظرہ:** اس شعبہ میں جو طلبہ قرآن شریعت حفظ کرتا

چاہتے ہیں انہیں حفظ کرایا جاتا ہے۔

(۵) **شعبہ ابتدائی و بنیات و تعلیم قرآن شریعت ناظرہ:** اس شعبہ میں پنج

بچوں کو قرآن شریعت ناظرہ پڑھایا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ اردو زبان، وینیات اہم

حساب، جغرافیہ اور تاریخ وغیرہ مضمون بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ اس شعبہ کا نصاب

چار سال کا ہے۔

(۶) **صفت عربی:** اس شعبہ میں طلبہ کو جدید عربی میں تقریر و تحریر کی مشق کرائی جاتی ہے۔
(۷) **صفت انگریزی:** اس شعبہ میں طلبہ کو انگریزی زبان پڑھانے کا انتظام کیا گیا
ہے جس کے تحت وہ دینی علوم وسائل کی انگریزی زبان میں تقریر کر سکیں۔

(۸) **شعبہ خوشنویسی:** اس شعبہ میں تمام طلبہ کو خوشنویسی کی مشق کرائی جاتی ہے اس
شعبہ کے درجہ بند ہیں۔ ایک درجہ بعض خط کی صفائی کا ہے تاکہ طالب علم بدھٹلی کے عیب
سے محظوظ ہو جائے اور وہ سزاد رجہ فن کتابت — کی فن تخلیل کا ہے جس کے بیٹے
طلبا کو وظائف بھی دیئے جاتے ہیں۔ اور اس درجہ کی مدت نصاب پوری کر کے اس
فن کی سند کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جو طلباء فن کتابت یکجا ہتھیں ہیں انہیں کتنے
اڑ دو عربی رسم خط سکھا کر تخلیل کرادی ہے اسے درجہ لازمی مضمون کا نہیں ہے۔

(۹) **جامعہ طبیہ:** اس شعبہ میں طلبہ کو طب قدم و جدید مع سرجری وغیرہ پڑھائی جاتی ہے
اور اس کی تخلیل پر باقاعدہ سند دی جاتی ہے جو کو غرض کی جانب سے منظور شدہ ہے۔

(۱۰) **دارالصنائع:** اس شعبہ میں طلبہ کو ابتدائی درجہ کی کچھ دستکاریاں سکھائی جاتی ہیں۔
جیسے لیدر ورک (سوٹ کیس، ٹبوے، ہولڈاں وغیرہ) نیز خیاطی اور جلد سازی کی تعلیم
دی جاتی ہے تاکہ ایک طالب علم ضرورت کے وقت کسی معاش سے عاری نہ رہے۔

(۱۱) **شعبہ مطالعہ علوم قرآنی:** اس شعبہ میں قرآن پاک پر رسیچ کا انتظام ہے۔

(۱۲) **شعبہ تعلیم الافتاء:** منتخب طلبہ کو فتویٰ نویسی کی مشق کرنے کیلئے یہ شعبہ دلالات
کی نیکانی میں قائم ہے جس میں ہر سال اعلیٰ استعداد کے طلبہ کی ایک مختصر جماعت افتاء نویسی
کے لیے منتخب کی جاتی ہے جس کے لیے ایک کمپنی زیر صدارت میتم دارالعلوم انتخاب کا
کام مسلمان انجام دیتی ہے اور فارغ شدہ طلبہ کو افتاء کی سند دی جاتی ہے۔

(۱۳) **مجلس معارف القرآن (اکیڈمی قرآن عظیم):** یہ ایک تصنیفی ادارہ ہے جو
ایئنے نظم اور کاموں میں مستقل اور آزاد ہے مگر دارالعلوم کی سرپریزی میں قائم ہے دارالعلوم
ہی کا ادارہ ہے جو محمد طیب میتم دارالعلوم کی صدارت میں کام کرتا ہے اس کی مجلس منظمه
اگر ہے۔ اس ادارہ کا مقصد قرآنی علوم کی رسیرچ اور تحقیق کے ساتھ وقت کے لمحہ ہے۔

کئے گئے ہیں اور ابتداء سے آج تک ان کا ریکارڈ محفوظ رہے انہیں ترتیب دے کر کتابی سورت میں شائع کیا جاتا ہے جس کے کئی مجلدات اب تک شائع ہو چکے ہیں۔

(۱) شعبۂ دارالاقامۂ اس شہر کے ذریعہ دارالاقامتوں میں رہنے والے طلبہ کی جائے ربانش کی پابندی نظیم اور ان کی اخلاقی تحریکی کی جاتی ہے۔

(۲) شعبۂ نظیم ابناۓ قدمیں:- اس شعبۂ ذریعہ ابتداء سے اب تک جتنے طلبہ فارغ التحصیل ہو کر نکلے ان کی شائع و انتظامی کی جاتی ہے اور ان کی خدمات کو جزوہ مختلف دائروں میں ختم دے رہے ہیں بطور ریکارڈ دارالعلوم میں رکھا جاتا ہے اور شائع کیا جاتا ہے۔

(۳) شعبۂ برقيات و متفرقات:- اس شعبۂ ذریعہ دارالعلوم میں صفائی، اب رسانی، حواجی، ہمان خانہ، ضروریات، مسجد، احاطوں میں چین بندی اور پوسٹ دارالعلوم میں برلنی روشنی وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے۔

(۴) حمافظ خانہ:- اس شعبۂ دارالعلوم کی ابتداء سے اب تک کے تمام شعبۂ جات کا ریکارڈ رکھنے کا انتظام ہے۔

(۵) شعبۂ امور خارجہ:- اس شعبۂ بیرونی طلبہ کے پاسپورٹ و ویزا کے سلسليں ضروری تحفظات و اندراجات اور عام طلباء دارالعلوم کے لیے ریلوے کنسیشن فراہم کرنے کا انتظام کیا جاتا ہے۔

(۶) شعبۂ شریات دارالعلوم:- اس شعبۂ دارالعلوم کا ماہوار آرگن دارالعلوم شائع ہوتا ہے اور دارالعلوم کے سلسہ کے ذمہ دارانہ اعلانات نیز اس کی ضروریات کے اظهار وغیرہ کی نشر و اشتاعت کا انتظام کیا جاتا ہے اس رسالہ کے علمی و دینی مضامین اور مطبوعات پر تبصرے مقبول عام ہیں۔

(۷) شعبۂ تبلیغ:- اس شعبۂ مکے مختلف حصوں میں مبلغین روانہ کئے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اسلام کی صحیح تعلیمات سے وشناس کرائیں۔ اقدامی تبلیغ کیلئے الگ درخواستی جسروں کیلئے الگ مبلغین نامزد ہیں جو منظم پروگراموں کے مانخت بھیجے جاتے ہیں۔

(۸) شعبۂ تربیت و رکش:- اس شعبۂ کا موضوع طلبہ کی جسمانی ورزش کا انتظام ہے تاکہ

مسائل کو قرآن حکیم کی روشنی میں حل کر کے اس طرح پیش کرنا ہے کہ قرآن حکیم دنیا کا زینما اور امام ثابت ہو اور دنیا کو قرآن حکیم سے روشنی حاصل کرنے کی رغبت اور امنگ پیدا ہو۔

(۹) دارالافتخار:- اس شعبۂ مکث بیرون ملک سے آئے والے سوالات پر فتوے دئے جاتے ہیں۔ یہ شعبۂ رحیقیت اسلامی عدلیہ کا شعبۂ ہے جس کے ماتحت مسلمانوں کا سپریل ان کے ذاتی خانگی اور اجتماعی معاملات میں ان کے سامنے رکھا جاتا ہے جس سے اسلامی تاؤں بڑی حد تک محفوظ ہے۔ اور یہ شعبۂ تعلیم خواص کے ہیں اور یہ شعبۂ تعلیم عوام کا ہے جو گھر میں بھی انہیں دی جاتی ہے۔

(ب) انتظامی شعبۂ جات

انتظامی شعبۂ جات کے ماتحت حسب ذیل شعبۂ جات آتے ہیں۔

(۱) کتب خانہ:- اس شعبۂ میں درسی، غیر درسی کتب اور مخطوطات کے ظیم وغیرہ محفوظ ہیں جن میں سے تمام طلبہ مدرسین کو مفت کتابیں دی جاتی ہیں اور باہر سے جو حضرت رسیرج اور تحقیق کرنے آتے ہیں ان کیلئے مطالعہ کی سہولتیں بہم پہنچائی جاتی ہیں۔

(۲) مطبع:- اس شعبۂ میں طلبہ کے لئے کھانا تیار کیا جاتا ہے دو وقت میں تقریباً ۸۰۰ طلبہ کا کھانا تیار ہوتا ہے اور مفت تقسیم کیا جاتا ہے جو مستطیع طلبہ قبیلہ کھانا خریدتے ہیں ان سے کوئی نفع نہیں لیا جاتا بلکہ صرف اصل لائٹ و سول کی جاتی ہے۔

(۳) تعمیرات:- یہ ایک مستقل شعبہ ہے جس کا کام بارہ ہفتے جاری رہتا ہے۔ دارالعلوم کی ٹینی ہمارتوں کی تعمیرات اور پرانی ہمارتوں کی مرمت فیروز شعبۂ کے خلاف میں داخل ہیں۔

(۴) شعبۂ دارالمطالعہ:- اس شعبۂ طلبہ کے مطالعہ کے لئے اخبارات، رسائل اور ضروری کتب کا انتظام ہے جو ایک ذردار کی تحریکی میں ہمہ وقت کھلا رہتا ہے اور مختلف اوقات میں طلبہ مطالعہ کے ذریعہ اپنے علم میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔

(۵) شعبۂ دارالتربیت:- اس شعبۂ میں چھوٹی عمر کے طلبہ کی تربیت اور اخلاقی تحریکی کا انتظام ہے۔

(۶) شعبۂ ترتیب فتاوی:- اس شعبۂ دارالعلوم کے دارالافتخار سے جو فتاویٰ صادر

دارالعلوم کا نصاب متعالیم

دارالعلوم کے اصل موضوع اور منصب کے مسئلہ میں سب سے زیادہ بنیادی اور اساسی چیز دارالعلوم کا نصاب تعلیم ہے جس سے بیان کے فضلاً کا دینی رُخِّ متعین ہوتا ہے، جو ہر تعلیمی شعبہ کا لگ اگ ہے۔ درجات عربیہ کے نصاب میں ۲۲ علوم و فنون داخل ہیں جنہیں کچھ علوم عالیہ ہیں جو مقاصد کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور کچھ علوم آئیہ ہیں جو علوم عالیہ کے لیے مدد و معاون یا وسائل کی حیثیت رکھتے ہیں۔

علوم عالیہ: قرآن عظیم، قفسیر، اصول تفسیر حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، علم

الهاد و کلام، علم الاحسان (تصوف)، علم الغرائش والمواریث۔

علوم آئیہ: صرف، نحو، معانی و بیان، ادب عربی، منطق، فلسفہ، عروض و قوافی، مناظر، پڑشت، ہندسه، حساب، طب، تجوید و قراءۃ۔

حال ہی میں درجات عربیہ میں بمقتضائے وقت نصاب میں جغرافیہ، تاریخ، مبادیٰ اثنیں اور معلومات عالمہ کامزیدہ اضافہ کیا گیا ہے۔

دارالعلوم میں درجہ بندی نہیں ہے بلکہ درجات عربیہ کے پورے نصاب کو اسال تفسیر کر دیا گیا ہے ایک سال کی مقررہ کتابیں ختم کرنے کے بعد طالب علم و مرے سال مقررہ کتابوں کو پڑھتا ہے البتہ اس میں فنون و کتب کی ترتیب پیش نظر کھی گئی ہے لر تام علوم و فنون ایک خاص نصاب اور ترتیب کے ساتھ اول سے آخر تک نیر تعلم تھے رہیں اور طالب علم کو تمام علوم کے ساتھ بکی و قت تدریجی مناسبت پیدا ہوتی ہے پس اک ذیل کے سال وار ترتیب نصاب سے واضح ہے۔

تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی عام جماعتی تدرستی بھی برقہ اور ہے
(۱۵) شعبہ جمعیتہ الطلیباء: یہ طلباء دارالعلوم کی الجمیں ہے جس کے ماتحت رہ کر طلیباء تقریر و تحریر اور مناظرہ کی مشق کرتے ہیں۔

(ج) مالی شعبہ جات

مالی شعبہ جات کے ماتحت حسب ذیل شعبہ جات ہیں۔

(۱) محسابی: اس شعبہ کے دفتر میں دارالعلوم کی آمدنی و خرچ کا تفصیلی حساب رکھا جاتا ہے جس کے بنیادی کاغذات، کتاب آمدنی، روزانہ کا کھانا اور ماہانہ گوشوارہ ہیں، تمام حسابت ہر سال سرکاری آڈیٹروں (چار مرڈ اکاؤنٹنٹ) سے باہما بطر آڈٹ کرائے جاتے ہیں۔

(۲) شعبہ اوقاف: اس دفتر میں دارالعلوم کے نام جس قدر جائدادیں صحرا فی یا سکنا فی وقت کی گئی ہیں یا کی جاتی رہتی ہیں ان تمام اوقاف کا تفصیلی حساب رکھا جاتا ہے اور تحصیل و وصول کا ایک منظم دفتر ہے جس کے ذریعہ آمدنی و خرچ اور داد و ستد کا باقاعدہ انتظام رکھا جاتا ہے۔

(۳) شعبہ منظیم و ترقی: اس شعبہ کے ماتحت تخلیل سرمایہ کے لیے سفر ہیں جو ملک کے مختلف حصوں میں حلقة وار پھیل کر دارالعلوم کے لیے چندہ فراہم کرتے ہیں اور مقررہ چندوں کی وصول یا بی میں حصہ لیتے ہیں۔

(۴) ادارہ اہتمام: ان سب پر آخری اور مرکزی ادارہ اہتمام ہے جس سے ہر شعبہ کے بارے میں خواہ تعلیمی ہو... یا مالی و انتظامی، تجارتی و احکامہ نافذ ہوتے ہیں۔

اس طرح دارالعلوم کا نظام ۳۳ شعبوں پر منقسم ہے جن میں سے ہر شعبہ ایک مستقل ادارہ کی صورت رکھتا ہے جس کا عملہ اور ذمہ دار اپنے ارج الگ الگ ہے۔

دستجہ عربیہ کا گلیارہ سالہ نصاب متعلم

سال اول — صرف (میران الفون منشعب بفتح گنج، علم الصیفی)

نحو (نحو میر، شرح مائتہ عامل)

عربی ادب (مفید الطالبین)

منطق (صغریٰ، کبریٰ)

سال دوم — صرف (فصلوں اکبریٰ۔ تابحث مخارج۔ مراج الازواج)

نحو (ہدایۃ النحو۔ کامل، کافیہ۔ کامل)

عربی ادب (تفہمۃ الیین۔ دو باب، تحریر عربی)

منطق (مرقات، شرح تہذیب۔ تاضابطہ

فقہ (نورالایضاح، قدوری)

سال سوم — نحو (شرح جامی بحث فعل حرف و بحث اکم تائبیات۔)

عربی ادب (تفہمۃ العرب، تحریر عربی)

منطق (قطبی تصدیقات۔ تام مختلطات)

فلسفہ (ہدیہ سعیدیہ)

فقہ (کنز الدقائق)

اصول فقہ (اصول الشاشی)

سال چہارم — علم معانی و بیان [محصر المعانی۔ فن اول و ثانی]

[تلخیص المفتاح۔ تمام)

منطق (قطبی تصورات۔ تمام، میرقطبی۔ تام غریم)

فقہ (شرح وقاریہ۔ تاخیم کتاب العتاق)

اصول فقہ (نورالانوار۔ تاباب القیاس)

تفسیر (ترجمہ قرآن شریف۔ اول پندرہ پارے)

تجوید و قراءۃ (مشق پارہ عم مع فوائد مکملۃ)

عربی ادب (مقامات حریری۔ ۲۰۰ مقامے، انشا عربی)

منطق (سلم العلوم)

فقہ (ہدایۃ اقویین۔ کامل)

اصول فقہ (حسانی۔ تمام)

تفسیر (ترجمہ قرآن شریف۔ آخری پندرہ پارے)

سال ششم — تفسیر (جلالین شریف۔ تمام)

اصول تفسیر (الفوز الکبیر۔ تمام)

منطق (ملا حسن۔ تابحث جنس)

فلسفہ (بیبذی۔ تمام)

علم کلام (سامرو سلام، شرح عقائد سخنی۔ تمام)

علم الفرائض (سراجی)

اصول افتاء (رسم المفتی)

سال سفتم — فقہ (ہدایۃ اخیرین۔ تمام)

تفسیر (بیضاوی۔ سورہ بقرہ ۱۰۷ پارہ)

حدیث (مشکوہ شریف۔ تمام)

اصول حدیث (شرح تنبیہ الفکر۔ تمام)

اصول فقہ (توضیح تکویرح۔ تابحث حقیقت و مجاز)

ہدیۃ (تصریح۔ تمام)

سال ششم — حدیث [نسائی، ابن ماجہ، ترمذی شریف۔ بخاری شریف]

(دورہ حدیث) [ابوداؤ شریف مسلم شریف، شماں ترمذی]

سال نهم
درجہ تکمیل
سال دوم اصول فقہ (مسلم الثبوت)
ریاضی خلاصہ الحساب
انقلیبیس

دورہ تفسیر
منطق
علم کلام
حکمت شرعیہ
نصاب تعليم صفت عربی
صفت ابتدائی۔ کتب عربی، المطالعۃ المجموعۃ، المطالعۃ سعودیہ جزو ثالث
درس المطالعۃ المختارة، القراءۃ الرشیدیہ الذاخیرہ، مسلم الافتخار
جزء اول، المطالعۃ العربیہ خورد کے انتخابات اور ان
کے سلسلہ میں عملی مشق۔

درجہ تکمیل۔ سال اول
ادب عربی
عربی و قوافی
علم المعانی
منظارہ
منطق
فلسفہ
ہدایت

دیوان حماسہ باب الحمار و باب المراثی،
دیوان منتبی تا فاقیہ عین
سبعہ معلقة دو معلقة
(نقطۂ الدائرة)
(مظلول۔ تابیث ما ناقلت)
(رشیدیہ)

تاریخ دارالعلوم دہلی
۱۷

منطق
علم کلام
حکمت شرعیہ
نصاب تعليم صفت عربی
صفت ابتدائی۔ خدا دلہ — تاثر طبیات
قاضی مبارک، تاخیر امہات الطالب
خیالی — نا احوال برزخ
اور عالمہ تابیث وجود ذہنی
جلالی — تاخیر صفات
عوارف المعارف
حجۃ الثواب بالغہ — قم اول

ترجمہ۔ (اردو سے عربی اور عربی سے اردو و ترجیح)
تحریری کام۔ (رسم الخط کی مشق، املاء، الفاظ کے صحیح تلفظ)
اس درجہ میں درس زیادہ تر اردو زبان میں ہوتا ہے مگر درس کا کچھ حصہ عربی زبان
میں بھی ہوتا ہے۔ اس کی مدت ایک سال ہے۔

صفت ثانوی
درس
كتب عربی۔ مدارج الانتشار، عربی اخبارات کا انتخاب
الذاخیرہ، معلم الانتشار جزو دوم و سوم، المطالعۃ سعودیہ
حضر خاص و سادس، المطالعۃ العربیہ کلوں کے
انتخابات اور ان کے سلسلہ میں عملی مشق

انشار : (ابتدائی انشا) تقریر، اسلوب بیان، رفاقت، اطلاع۔
كتاب محفوظات سے [قواعد نحو، حکم و موازنہ اور ضرب الامثال]
[کوزبانی یاد کرنا، اشعار زبانی یاد کرنا]
اس درجہ میں درس کا نصف حصہ اردو زبان میں ہوتا ہے اور نصف حصہ عربی زبان
میں اس کی مدت ایک سال ہے۔

صفت نہایت (آخری) [معلم الائش، العربی کلام مصری، عربی زبان]
درس [کے اخبارات، مضمون نگاری، تقریر، سیرت ادا]
[مختلف موضوعات پر معلوماتی مطالعہ۔]

اس درجہ میں تدریس تعمیم وغیرہ سب عربی زبان میں ہوتی ہے اس کی مدت بھی ایک سال ہے اس ادارہ صفت عربی کے سال دار مجلسے اور اجتماعات ہوتے ہیں جس میں طلباء عربی زبان میں تصریح کرتے ہیں اور مجلسے کے تمام معاملات عربی زبان ہی میں ملے کئے جاتے ہیں جس سے طلبہ کا حوصلہ بڑھتا ہے اور وہ نقطہ کے ساتھ عربی خطابت پر بھی قابل برداشت ہو جاتے ہیں۔

نصاب درجہ قراءۃ وجودید

نصاب درجہ اردو حفص: مشق حروف تہجی، مخارج و صفات زبانی یاد کرنا جمال (سال اول) افقرآن، مشق پائچ پارے۔

نصاب درجہ اردو حفص: معرفتۃ الوقوف، مشق قراءۃ بچپسیں پارے۔ (سال دوم)

نصاب درجہ حفص (عربی) مشق حروف تہجی، مخارج و صفات زبانی یاد کرنا۔ فوائد (سال اول) کیسے جزوی خلاصۃ البیان، مشق پارہ عالم برداشتہ حفص، اجراء پائچ پارے سے من مشق لہجہ عربی۔

نصاب درجہ حفص (عربی) مشق لہجہ عربیہ اور قواعد ضروریہ کو پختہ کرنا، اجراء

(سال دوم) قرآن شریف بچپسیں پارے سے برداشتہ حفص
نصاب سبعہ (عربی) سال اول: شاطبیہ، رائیہ، مشق متفرق رکوع
سال دوم: اجراء قراءۃ سبعہ، مشق مختلف رکوع
نصاب عشرہ (عربی) سال اول: طیبہ، مشق متفرق رکوع
سال دوم: اجراء قراءۃ عشرہ، مشق مختلف رکوع

نصاب تعلیم درجہ فارسی و ریاضی دارالعلوم دیوبند

درجات فارسی و ریاضی میں مدت تعلیم پائچ سال رکھی گئی ہے۔ اس شعبہ میں ادب فارسی، قواعد عربی، فقہ اردو و فارسی، تاریخ اسلام، جغرافیہ، ہندی، حساب و انقلیدس آنکھ مضانیں زیر تعلیم ہیں۔

درجہ اول: ادب فارسی و اردو۔ (مفید نامہ، قاعدة تعلیم الاسلام، تعلیم الاسلام)
[حصہ ۱، ۲، اردو کی درسی کتاب]

قواعد فارسی۔ (حفظ مصادر مخضارع، رسالہ نادر)

تاریخ۔ (تاریخ الاسلام حصہ اول)

ہندسہ ستونک، اعداد و مراتب، جمع تفریق بسطی ریاضی۔ پہاڑہ ۲۰۰۰ انکپ پتو، آدھا۔ وسیں نک۔

تحریری کام۔ (حروف تہجی لکھنا، مکجب جملوں کی مشق، جملوں کا املہ) درجہ دوم: ادب فارسی و اردو۔ { تمسیری کتاب، تعلیم الاسلام حصہ ۳۔۴ } تواریخ دوستان۔ تمام، کریما متعز مجہہ، اردو کی

قواعد فارسی و اردو۔ (آدنامہ، رسالہ قواعد اردو و حصہ اول۔ تمام)

تحریری کام۔ (اردو کا املہ، ہفتہ میں ایک یاد و دو خطا اور عرضی لکھنے کی مشق) تاریخ۔ (تاریخ الاسلام ۲ نصف اول)

جغرافیہ۔ (اصطلاحات جغرافیہ، جغرافیہ ضلع سہارپور)
ہندی ادب۔ (قاعدہ ہندی پر انگریزی)

ریاضی۔ [ضرب بسیط، تقسیم بسیط، تحول ادنیٰ و اعلیٰ جمع و
تفريق، ضرب و تقسیم مركب، پیدا۔ بسوایا۔]

دینجہ سوم۔ ادب فارسی دارودو۔ انتشار فارغ۔ قام، تعلیم الاسلام۔ حضن پچہارم
گلستان پچہار باب مع ویاصہ، پند نامہ عطا رنا صفحہ ۲۱۷]

قواعد فارسی۔ (احسن القواعد۔ تبیان حرکت مرکبہ)
تاریخ۔ (تاریخ الاسلام ۲ قصہ ثانی)

جغرافیہ۔ (جغرافیہ صوبہ متحده آگرہ وادھہ)
ہندی ادب۔ (شکشا سوپاں۔ پہلی سیرہ، ہندی لکھنا۔

ریاضی۔ [ذوا منعاف اقل، تقسیم علیہ عظم کسریوں کا مفرد بنانا۔
کسور کا مقابله، جمع و تفریق، ضرب و تقسیم، کسور عام۔
جمع و تفریق، کسور اعشاریہ۔

درجہ پچہارم۔ ادب فارسی دارودو۔ (بوستان پچہار باب، رقصات حالمگری)
فقہ۔ (مالا بدمنہ۔ تاکتاب الحج)

قواعد فارسی۔ (احسن القواعد۔ باب اول تا ص ۲۱۷)
صرف عربی۔ (میزان الصرف، مشعوب پنج گنج، صرف میر)

تاریخ۔ (تاریخ الاسلام، حصہ ۲۱۷)
جغرافیہ۔ (تذکرہ سرزین ہند معا نقشہ والی)

ادب ہندی۔ (شکشا سوپاں، دوسرا سیرہ، ہندی لکھنا)

ریاضی۔ [ضرب کسور اعشاریہ، تقسیم کسور اعشاریہ، جذر المربع اعداء
صحیح جذر المربع کسور عام و کسور اعشاریہ، حساب تجارت
مضروب مركب، مربع، مستطیل، کروں کار قبہ نکانا۔

تحریری کام۔	[درجہ سوم و پچہارم میں اردو سے فارسی اور فارسی سے اردو میں ترجمہ کرایا جائے۔]
درجہ پچم۔ ادب فارسی	[سکندر نامہ۔ تاختم رفتن سکندر در عجم ص ۲۹۴، انوار سیلی۔ صرف ہاپ اول بغیر دیباچہ، مشوی شریعت دفتر اول نصف
تحریری کام۔	[فارسی میں مضمون لکھنے کی مشق۔ ہفتہ میں ایک مضمون
قواعد فارسی۔	(احسن القواعد باب دوم کی فصل، دوام و سوم تا ۲۱۷ تا مٹ) (نحویں، شرح مائتہ عامل)
عربی نحو۔	(کبری)
منطق۔	(مغید الطالبین)
عربی ادب۔	(تذکرہ سرزین ایشیا رمعہ نقشہ والی)
جغرافیہ۔	(سرور المحروون)
تاریخ۔	[درجہ پچہارم میں مقالہ اول بغیر نتا ج غیر صریح، پونیشری] طریقہ، ارجع متناسبہ اوس طائفہ صدی تنساب۔
ریاضی۔	

نصاب و درجہ حفظ قرآن شریف

اس درجہ میں طلباء کو پورا قرآن شریف حفظ کرایا جاتا ہے اس کے لیے
کوئی مدت معین نہیں ہے ہر طالب علم اپنی استعداد کے مطابق مدت صرف کر کے
قرآن شریف حفظ کر لیتا ہے گواہ اوس طاہیک طالب علم کو پورا قرآن شریف حفظ
کرنے میں ۲ سال خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ اس بات کی سعی کی جا رہی ہے کہ اس سے
کم مدت میں حفظ قرآن شریف مکمل ہو جائے۔

		ا) نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اخاندان، وطن، شیرخوارگی، پچپن، ابوطالب کی سپردگی اور سفر تجارت، انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ معدیشت، شام کا دوسرا سفر، نکاح، سب سے پہلی بیوی، نبوت کاملنا، سب سے پہلے مسلمان، تبلیغ، توحید کی تعلیم، راہ حق میں مصیتیں۔
		(د) سیرت۔
		[بدن، کپڑوں اور جگہ کو پاک کرنے کا طریقہ، وضو کی فوائد، خوبیاں، وضو کا طریقہ، وضو توڑنے والی چیزیں غازیں کیا پڑھا جاتے ہے۔]
		(د) فقه اور ضروری سائل۔
		[غازیں کیا پڑھا جاتے ہے۔
		مال باب کے احسانات، ان کی خدمت، رشتہداروں کے ساتھ برداشت، بڑوں کا ادب، مخلوق خدا کی خدمت، اپنوں اور پرپاؤں سے اچھا سلوک، جانداروں پر حرم، سچ اور جھوٹ، بُری باتوں سے زبان کو روکنا۔
		(د) اخلاق۔
		[بدن کی صفائی، کپڑے، مدرسہ، مکتب اور رہنے کی جگہ کی صفائی، مجلسی آداب، سلام، مصافحہ، ادب سے بات چیت، اچھے اور بُرے کھیل تاشے۔
		ا) اردو:-

		درسی کتاب سے دیکھ کر عبارت پڑھنا، الفاظ اور جملوں کے معنی، عبارت کا مطلب۔
		(ا) پڑھنا
		درسی کتاب کے الفاظ، جملوں اور عبارت کو تختی پر نقل کرنا، درسی کتاب کے آسان الفاظ اور جملوں کا املا۔
		(ب) لکھنا
		پہاڑ سے پانچ نک، علامات جمع و تفرقی، سادہ جمع تفرقی بیس کا مجموعہ بینیں سے زیادہ نہ ہو اور وہ آئندہ، ایک آئندہ اور دو آئندے کے پیسے، روپیہ کے آئندے اور رد پئے کے پیسے۔
		(ج) حساب

درجات ابتدائی اردو دینیات کے لئے نصاب درجہ اول:-

- (۱) دینیات (۱) قرآن شریعت ناظرو۔ قاعدہ۔ نصف پارہ علم مع تصحیح مخارج۔
 (ب) قرآن شریعت حفظ۔ تسمیہ، تعوڑ، شمار، درود شریعت، الہ ترکیبیت تک سورتیں حفظ۔

(ج) مذہبی عقائد (کلمہ طیبیہ معہ مطلب زبانی)

- (۲) فقہ (زبانی) [صفائی کی خوبیاں اور فائدے سے، بدن کو پاک رکھنا، کپڑوں کو پاک رکھنا، مسوک کرنا۔

- (۳) اخلاق (زبانی) [لوگوں سے اچھا معاملہ کرنا۔ ماں باپ کی تعلیم بڑوں کا ادب، چھپوٹوں پر محترمانی۔ سچ بولنا، دیانت داری کی خوبی جھوٹ اور پروری کی برائی

- (۴) ارہمنی کے طریقے (زبانی) (سلام کرنا، خدمہ بیشانی سے ملا، کھانے پینے کے ادب)

- (۵) اردو:- [حروف شناسی اور رواں پڑھنا، املاء حرروف ہجा اور ان کی مختلف صورتوں کی مشق تختی پر

- (۶) حساب۔ (گنتی سوتک)

درجہ دوم:-

- (۱) دینیات (۱) (قرآن شریعت ناظرو تا ختم پارہ لا حیب اللہ (مع تصحیح مخارج))
 (ب) (قرآن شریعت حفظ تا سورہ لمیک)

- (۲) عقائد۔ [اللہ تعالیٰ کی تعریف اور صفات (اجمالی طور پر نبی، رسول، مشہور انبیاء علیہم السلام کے نام، نبیوں کے کام اس سے پہلے نبی اور سب سے آخری نبی)، اسلام اور مسلمان ہونے کا

- (ج) مطلب، کلمہ شہادت معہ ترجیہ۔

تاریخ دارالعلوم دیوبند
 (ب) معاشرتی علوم
 تاریخ۔ (زبانی) اسیرت مبارک کے خاص خاص و اقدامات زبانی
 بیان کر کے تاریخ کا نصیر اور فوائد فہم نشین کرائے جائیں اور
 بچوں میں سلیقہ پیدا کیا جائے کہ وہ سُنے ہوئے والفات فہم
 نشین کریں۔ پھر اپنے الفاظ میں ان کا مفہوم ادا کریں گے۔

درجہ سوم

(۱) دینیات (۱) (قرآن شریف (ناظر) تاختم پارہ ستم مع تصحیح مخارج)
 (ب) (قرآن شریف (حفظ) نصف پارہ عتم مع تصحیح مخارج)

(ج) عقائد

توحید، صفات خلداندی، اسلامی، مشہور پیغمبروں کے نام،
 فرشتے خدا کی کتابیں، قیامت، جنت و دوزخ، عذاب ثواب،
 مکر مظلومین ترقی اسلام اور مخالفوں کی سازشیں، ہجرت جہشہ،
 شعب ابی طالب میں محاصرہ، حضرت خدیجہ اور ابوطالب کی
 وفات، دوسرا نکاح، بازاروں اور محلوں میں تبلیغ، سفر طائف،
 اہل مدینہ سے تعلق، مدینہ منورہ میں اسلام، ہجرت کا ارادہ،
 صحابہ کی دعوت، قریش کے منسوبے۔

(د) فقہ

وضو، ذرائع وضو، آداب استنبخ، اذان و تبحیر، نماز پڑھنے
 کا طریقہ، رکوع و سجدہ وغیرہ کا صصح طریقہ۔

(۵) اخلاق

حق کا مطلب، حق داروں کے مرتبے، حقوق اللہ حقوق العباد
 خدمت خلق، شکر و احسان مندی، بڑوں کا احترام، ایقاۓ
 عہد، اچھی بُری صحبت، دشمنوں کو درست بنانے کا طریقہ،
 غیبیت کے کہتے ہیں، غیبیت، چھلی اور جھوٹ

(۶) اسلامی تہذیب (آداب ملاقات، آداب گفتگو، آداب مجلس، کھانے پینے کے آداب)

(۷) ادب و تحریر { اطمار، چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھائی جائیں۔ }
 خط لکھنا سمجھایا جاتے۔

(۸) حساب
 متعلق سوالات کی زبانی مشق اور تحریری مشقوں، کسریوں اور
 روزمرہ کے پیانوں کا نصور۔
 (۹) معاشرتی علوم (زبانی) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نہوان اللہ
 (تاریخ) علیہم السلام کے واقعات بیان کر کے ان کی مقدس زندگی
 اور پاک خدمات کا تصور بھایا جائے۔

درجہ چہارم

(۱۰) دینیات (۱) (قرآن شریف (ناظر) تاختم قرآن پاک مع تصحیح مخارج)
 (ب) (قرآن شریف (حفظ) پورا پارہ علم، سورہ سیم، آیتہ الکرسی)
 شرک اور کفر کا اجسامی بیان، جلیل الفدر طالکہ اور ان کے
 نام، بہوت، تاختم بہوت، وحی، معجزہ، قرآن شریف۔
 مدینہ منورہ میں تشریف آوری سے وفات تک کے
 حالات اور غرزات و سرایا۔

(ج) عقائد

(د) سیرت

(۵) فقہ

(۶) اخلاق

ذرائع، سفن و مستحبات و ندو، ذرائع و سفن عمل، اقسام
 نجاست، پانی کی پاکی و ناپاکی، تمام (کن چیزوں سے تھیم کر سکتے
 ہیں)، اوقات نماز، اوقات متنوع، مکروہ اوقات، ذرائع و
 سفن نماز، ذرائع، واجب، سفن موکدہ، سفن روایت، نفل،
 جماعت، فوائد و فضائل جماعت، مقتدى، منفرد، امام، نماز
 جمعہ اور اس کے ضروری مسائل۔

الحب فی اللہ و البغض فی اللہ، حقوق العباد، مال با پشتہ روا
 اور پڑو سیوں کے حقوق، صلوات رحم حسن سلوک، نرم ولی،
 خیر خواہی خلق خدا کے فضائل و خوبیاں، حدیث، خیانت
 وغیرہ کی قیاحتیں، غصہ اور اس کا صصح استعمال۔

مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی، جامعہ انہر قاہرہ (مصر) اور مدینہ یونیورسٹی
مدینہ منورہ (جانش) نے منظور کر لیا ہے۔

درجات فارسی سے فارغ ہونے والے کو صرف ایک سند وی جاتی ہے۔

درجہ تجوید سے فارغ ہونے والے کو ایک سند وی جاتی ہے۔

درجہ ابتدائی وغیریات سے فارغ ہونے والے کو طلب کرنے پر سُرٹیکیٹ دیا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ اگر نصاب کی تکمیل سے پہلے کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے دارالعلوم
کو چھوڑنا چاہے تو جس درجہ تک کی کتابیں اس نے پڑھی ہیں اس کا سُرٹیکیٹ (تصینیف)
نامدادے دیا جاتا ہے۔

فراغت کے بعد اگر کوئی شخص سند کے علاوہ سُرٹیکیٹ بھی لینا چاہے تو اسے ایک
مطبوعہ سُرٹیکیٹ بھی دیا جاتا ہے جو اُدو اور انحریزی میں ہے۔

دارالعلوم کامل کے دوسرے اداروں سے رابطہ

(۱) ملک کے دوسرے علمی اور ثقافتی اداروں سے دارالعلوم کا بھی ربط قائم ہے چنانچہ
دارالعلوم کے کارکن ادارہ ثقافتہ سند کے ممبر بنائے گئے۔

(۲) دارالعلوم وقاً فوقتاً ہندوستان میں منعقد ہونے والی تعلیمی اور ثقافتی نمائشوں میں بھی
ان کی درخواست پر باضابطہ شرکت کرتا ہے اور اس کی مخطوطات وہاں بھی جاتی ہیں جس سے
دارالعلوم کے کتب خانہ اور فوادر کے ذخیرے کی عظمت قائم ہوتی ہے۔

(۳) طبقی اداروں میں اس کے کتب خانہ کی تلمی اور نادر کتابیں بھی جاتی ہیں۔

(۴) تصنیقی اداروں میں (مثلاً حیدر آباد و کن وغیرہ) یہاں کے نمائندے شرک ہوتے
ہیں اور مخطوطات بھی جاتی ہیں۔

(۵) سرکاری کمیشنوں جیسے سانی کمیشن یا اوقاف کمیشن وغیرہ میں بھی دارالعلوم کی
مختلف اوقاف میں شرکت ہوتی ہے اور شاہد طلب کرنے جانے پر بطور نمائندہ
شہریں کو بھیجا جاتا ہے۔

حلال، حرام، مکروہ اور مباح کھانے، دسترخوان کے آداب،
مہاجان، سونے اور چاگنے کی دعائیں اور ان کے آداب، دفع
(۶) آداب معاشرت قطع، لباس، محلہ اور گلی کی صفائی، بڑنوں کی صفائی، مسکرات
سے اجتناب اسراف و سخن سے اجتناب۔

چاروں مرکب قاعدے، ہندوستانی سکول، اوزان، اور
پیمانوں میں کسری پہاڑ سے، پتو، ادھا، پونا، سوابا، دس
(۷) حساب۔ انک، دام اور قول تکھنے کا طریقہ۔

(۸) معاشرتی علوم (۸) تاریخ (زمانی) (خلافتے راشدین، صحابہ کرام اور
اکابر دین کے حالات۔

(ب) جغرافیہ (سمتیں، قبائل کی سمت نقشہ میں، کھیت، باخ، مکان اور سفر کوں
وغیرہ کی علمتیں نقشہ میں، گاؤں، تھانہ، پرگنہ، دریا، پہاڑ،
جزیرہ، جھیل وغیرہ۔ اصطلاحات جغرافیہ۔

دارالعلوم کی سندیں اور سُرٹیکیٹ

دارالعلوم میں درجات عربی سے فارغ ہونے والوں کو تین سندیں دی جاتی ہیں۔

(۱) سند العالم : یہ سند اس شخص کو دی جائیجی جو دورہ حدیث کا امتحان پاس کر لے۔

(۲) سند الفاضل : یہ سند اس شخص کو دی جائے گی جو دورہ حدیث کے علاوہ
دورہ تفسیر بھی پڑھ جکتا ہو۔

(۳) سند الکامل : یہ سند اس شخص کو دی جائے گی جو درجہ تکمیل کے علوم و فنون کا
پڑھ جکتا ہو۔ پھر بذکورہ بالآخریوں سندیں طالب علم کی استعداد اور اخلاقی حالت کے
اعتبار سے تین درجے کی ہیں۔ اعلیٰ، او سط اور ادنیٰ۔ جن میں بہ تقاضہ الفاظ اور عنوان
اقیاز رکھا گیا ہے۔ یہ سب سندیں عربی میں ہوتی ہیں۔ مذکورہ بالآخریوں سندوں کو علی گھر

جرائد دارالعلوم

دارالعلوم سے درسالے نکلتے ہیں۔

(۱) رسالہ دارالعلوم : یہ رسالہ اردو میں نکالتا ہے اور اس میں علمی مضامین شائع کئے جاتے ہیں جو مختلف اصول، فروعی اور تاریخی مسائل پر مشتمل ہوتے ہیں۔ نیز معلوماتی ذخیرہ کافی حد تک پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ایک دینی اور علمی رسالہ ہے۔

(۲) رسالہ دعوت الحق : یہ رسالہ عربی زبان میں شائع ہوتا ہے جس میں اکابر دارالعلوم کے علمی اور مسلکی مضامین عربی میں شائع کئے جاتے ہیں تاکہ اکابر دارالعلوم کے علوم جو اردو میں ہونے کی وجہ سے عرب حمакاں تک نہیں پہنچ سکے پہنچ جائیں اور ان سے عرب حماكاں بھی مستفید ہو سکیں اور ساتھ ہی دارالعلوم کی خدمات اور کارناموں سے واقفیت حاصل کر سکیں۔

(۳) دارالعلوم کا دفاع عن الدین : ہمہ گیری کی وجہ سے ہر قتنہ کی مدافعت کے لئے سینہ پر رہی خواہ وہ قتنہ نقل و روایت کی راہوں سے آیا یا عقليت پسند کی بنیادوں سے اٹھا۔ اس جماعت نے ہر دور میں اعلامِ كلت الشد اور اہم بالمعروف کا فرض ادا کیا۔ اور اسی اسلوب اور اسی رنگ میں جس رنگ ڈھنگ ہیں کسی دینی قتنہ نے سراٹھیا متصوفین بے تصوف کی جانب سے بدعاۃ، محشرات اور شرکی حرکات کا فتنہ راویتی انداز میں ابھرا تو اس نے راویتی ہی طور پر مقابلہ کیا اور قتنہ کی بے سرو پا اور بے سند راویتوں کی تلکی کھوؤں کر شریعت و طریقت کی مستند نقول سے اس کا استیصال کیا اور مقابلہ میں نقل و روایات کا ایک بڑا ذخیرہ پیش کر دیا۔ مدعیان عقل و اجنباد کی طرف سے آزادی نظر، عدم اتباع سلف اور شیخیت کا فتنہ عقل میعنی کا سہارا لے کر دین میں داخل ہونے رکھا تو اس نے عقلی دلائل پیش کر کے کامیاب مدافعت کی اور جس کے لئے حضرت بانی دارالعلوم قدس سر فی ایک مستقل حکمت ہی مدون

ذرا دی جس کے سامنے فلسفہ کسی بھی روپ میں آیا تو اس نے فلسفہ کے اندازِ قد کو چھپا کر اس کے راستے روک دیتے۔ غرض بدعت پسندی، ہوا پرستی، دہریت نوازی بے قیدی مطلق العنانی اور آزادی افکار کی جرطیں دارالعلوم نے کھوکھل کر کے عمل نقل و روایت اور حکمت دین کی جرطیں مضبوط کر دیں۔

۴۔ دارالعلوم نے ملک کو کیا نفع پہنچایا | دارالعلوم نے اس نوعیت کے تزکیہ اخلاق، تصنیف، افتار، مناظر، صحافت، خطابت، تذکیر، تبلیغ، حکمت اور طب وغیرہ میں پیش بہا خدمات انجام دیں۔ ان افراد نے کسی مغضوس خاطر میں نہیں بلکہ ہندوپاک کے ہر ہر عوہ اور بیرونی ملک میں قابل قدر کارنامے انجام دیتے۔ ۱۲۸۳ھ سے ۱۳۸۲ھ تک سو سال کی مدت میں اگر دارالعلوم کی ان خدمات کا بازہ رہا جو اس نے ہندوپاک میں انجام دیں تو معلوم ہو گا کہ ان دونوں ملکوں کے ہر حصہ میں اس نے اپنے ایسے فرزندان رشید پہنچائے جو اس خطہ میں آفتاب و مہتاب بن کر جھپکے اور مخلوق خدا کو نظمت جہل سے لکاں کرنا ہوں نے نور علم سے مالا مال کر دیا۔ ہندوستان اور پاکستان کے فضلے دارالعلوم کی صوبیہ و انتہست ۱۲۸۳ھ تا ۱۳۸۲ھ درج ذیل ہیں۔

ہندوستان

	نام صوبہ	تعداد فضلا رکام	نام صوبہ	تعداد فضلا رکام
۳	(۱) ٹرانسجور	۱۸۹۴	(۱) یو پی	
۴۲	(۲) کیرالہ	۱۵۱	(۲) مغربی بنگال	
۵۲	(۳) آندھرا	۲۶۵	(۳) آسام و منی پور	
۴	(۴) میسور	۷۸۰	(۴) بہار و اڑیسہ	
۲۸	(۵) مدھیہ پردیش	۲۰	(۵) مدراس	

۲	کویت (۸)	۱۰۹	۴) افغانستان
۱۱	ایران (۹)	۷۰	۵) روسیه و سایریا
۲	سینا (۱۰)	۹۳	۶) چین
۱۲	جنوبی افریقہ (۱۱)	۱۹۳	۷) پرما
۲	سعودی عرب (۱۲)	۲۸	۸) ملائیشیا
۱	سیام (۱۳)	۱	۹) اندونیشیا
۱	مین (۱۴)	۲	۱۰) عراق

۹۳۱	میزان بیرونی حاکم
<u>۴۹۸۶</u>	میزان ہندوپاک
۷۳۱۶	ہندوپاکستان اور بیرونی حاکم کے فضلاں کی مجموعی میزان
<u>۵۸۳۱۰</u>	فضلاں کرام کے علاوہ جن طلبائے دارالعلوم سے استفادہ کیا ان کی تعداد ان فضلاں کرام اور طلبہ کی مجموعی تعداد جنہوں نے دارالعلوم سے استفادہ کیا۔
۴۵۶۲۴	تفصیلات آئندہ صفحات میں آرہی ہیں

۸۔ دارالعلوم کا حصہ تصنیف میں | علامہ دارالعلوم کی تعبیافت میراث

لماں رہا۔ ہمیشہ بروقت اور بر محل تصانیف اس احاطہ سے لفظی رہیں۔ دارالعلوم نے
موسم کے عرصہ میں ۱۱۶۳ مصنفین پیدا کئے جن میں سے تقریباً ۲۴ درجہ اعلیٰ کے
مصنفین ہیں۔ علماء دارالعلوم میں سے چند مشہور و معروف مصنفین کی فہرست

تصنیف کارنگ

ام متحف

- (۱) حضرت مولانا محمد قاسم صاحب^ب بانی دارالعلوم دیوبند
 منتكلمانہ
 (۲) شیخ الہند حضرت مولانا محمد و الحسن صاحب^ب
 محمد شاہ
 (۳) حضرت خبلیل احمد صاحب^ب مبیدھسوی^ب
 محمد شاہ

پاکستان

نام صوبہ	تعداد فضلاً کرام
(۱) مغربی پاکستان	۱۵۱۹
(۲) مشرقی پاکستان	۱۴۶۲

میزان پاکستان
میزان سندھستان

میزان سندھستان و پکستان ۴۹۸۴

ان فضلائے دارالعلوم نے اپنے اپنے رنگ سے دین کے کسی نہ کسی شعبہ میں شخصی یا اجتماعی حیثیت سے کام کیا اور کر رہے ہیں۔

۷۔ دارالعلوم کے فیوض بیرون ہند میں | پھردارالعلوم نے اپنے علمی
فیوض سے نہ صرف ہند و پاک ہی کو نہیں بہرہ انداز کیا بلکہ ایشیا اور افریقہ کے اسلامی حملاء کو بھی
اس کی خلیلیاتیوں سے جبکہ اٹھئے۔ پتنا پچھے شیر ملکی فتنلدار دارالعلوم کی فہرست
از ۱۸۸۲ء تا ۱۹۳۸ء مدرجہ ذیل ہے۔

نام مصنف

- (۳) حضرت مولانا محمد اشرف صاحب تھانوی
 (۴) حضرت مولانا جعیب الرحمن صاحب عثمانی
 (۵) حضرت مولانا سید مرتعی حسن صاحب
 (۶) حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری
 (۷) حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب
 (۸) حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدینی
 (۹) حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب
 (۱۰) حضرت مولانا اعزاز علی صاحب
 (۱۱) حضرت مولانا شیر احمد صاحب عثمانی
 (۱۲) حضرت مولانا سید منظار حسن صاحب گیلانی
 (۱۳) حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ
 (۱۴) حضرت مولانا محمد ادريس صاحب کاندھلوی مدظلہ
 (۱۵) حضرت مولانا بدر عالم صاحب بیرونی مدظلہ، مہاجرینی
 (۱۶) حضرت مولانا حافظ الرحمن صاحب
 (۱۷) حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب مدظلہ
 (۱۸) حضرت مولانا سید احمد صاحب اکبر آبادی مدظلہ
 (۱۹) حضرت مولانا محمد یوسف صاحب میوری مدظلہ
 (۲۰) حضرت مولانا عبد الصمد صاحب سارم سیوہاری مدظلہ
 (۲۱) حضرت مولانا فہرست میں اپنا نام شمار کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی
 ہے۔ تاہم تحدیثاً للنعمت اظہار نعمت بھی شکر نعمت ہے کہ اس ناکارہ کی
 تابیفات کا عدد بھی جو مختلف موضوعات پر ہیں تقریباً سوا سو (۱۲۵)، ہے جن کا
 رنگ ان کے مطالعہ سے واضح ہو سکتا ہے۔

مشائیر دارالعلوم

علمائے دیوبند میں ایسے مشائیر بھی ہوتے جو اپنے وقت کے امام ملت، علم و عمل کا نمونہ، خواص و عوام کی رشد و بہادیت کا مرکز، روایت حدیث، رنگ تفسیر، فقرو درایت میں راست اور ذاتی خدا پرستی کے ساتھ مخلوق کے حق میں مرتب اخلاق و صلح درین اور دوسرے قومی و ملکی امور میں سلسلہ طور پر قائد تسلیم کئے گئے ہیں۔ مثلاً

اسماں گرامی مشائیر دارالعلوم . خدمات جوان بجام دین

(۱) مذہبی خدمات | متعدد مناظرے

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب یساں یوں اور آریہ سماجیوں سے کئے تھائیں اور تقریروں کے ذریعہ ولی اللہی مسک کی باقی دارالعلوم میں مگر جماعت کے وضاحت اور اشاعت کی، متكلمانہ اور عارفانہ سربراہ ہونے کی حیثیت سے نیز انداز سے اصول اسلامیہ اور اساسی عقائد دین کو عقلی دلائل سے مستحکم اور مثبتہ کیا اور وین اس حیثیت سے کہ تاسیں و بیٹا اسلام کی سرحدات کو اتنا مثبتہ بنادیا کہ افیاً دارالعلوم بھی دارالعلوم ہی کی ایک نسبت میں اس موقع پر بھی آپ کا کے محلے ان پر اثر اندازہ ہو سکیں۔

(۲) سیاسی خدمات | ۱۸۵۸ء کے انقلاب

میں عملی اور قاتلانہ حصہ لیا۔ جنگ شاملی میں خوب ساہنسید جنگ کی۔

(۳) سماجی اصلاحات | معاشرہ

(سو سالی) میں غلط قسم کی رسم سے جو ابتری پھیلی ہوئی تھی اُسے پہلے اپنے گھر سے ختم کیا اس کے بعد دوسروں کو ان کے ترک پر آمادہ کر کے معاشرہ کو صاف کیا جس کی تفصیل

تصنیف کارنگ

اعرقاء، سوچیانہ اور مشرنہ
 محدثانہ اور کی تصنیف کی
 مناظر، تعلیم جو علوم و فن
 محدثانہ، فقیہانہ و مناظرانہ

سیاسی و فقیہانہ

موزخانہ

فقیہانہ و موزخانہ

محشیانہ، فقیہانہ، اویانہ

فلسفیانہ و متكلمانہ

موزخانہ و محققانہ

فقیہانہ

محدثانہ و متكلمانہ

محدثانہ

سیاسی و موزخانہ

موزخانہ

اویانہ و موزخانہ

محدثانہ

محققانہ

احضر کو اس فہرست میں اپنا نام شمار کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی

ہے۔ تاہم تحدیثاً للنعمت اظہار نعمت بھی شکر نعمت ہے کہ اس ناکارہ کی تابیفات کا عدد بھی جو مختلف موضوعات پر ہیں تقریباً سوا سو (۱۲۵)، ہے جن کا رنگ ان کے مطالعہ سے واضح ہو سکتا ہے۔

اسماں گرامی مشاہیر دارالعلومخدمات جو انجام دیں:

کتاب "مسلک دارالعلوم" میں بقدر ضرورت سکر دی گئی ہے مزید تفصیلات کے لیے کتاب "سوانح قاسمی" ملاحظہ ہو۔

(۱) قطب ارشاد

حضرت مولانا شیداحمد حسنا: حضیرت زیادہ شفت رہا۔ ہزارہا اساؤں نے آپ سے استفادہ کیا۔ آپ نے علماء کی دینی تربیت فرمائی اور انہیں دین کے باعثے میں علم نہیں بلکہ بانیوں میں ہیں اور سربراہ اتنا راسخ اور ستمکم پنا دیا کہ ان افراد پر کوئی بھی دارالعلوم ہی کی ایک نسبت ہے اس موقع پر بھی آپ کا تذکرہ کیا گیا۔

(۲) سیاسی خدمات ۱۸۵۶ء کے

انقلاب میں حضرت نافتو ہی کے دوش بدش قائدانہ حصہ لیا۔ اور نوماہ تک اسی فرنگ رہے جن لوگوں نے ان سیاسی اور جہادی خدمات پر پرودھ والنا چاہا ہے شواد اپنی لامبی اور معاملات سے بے خبری کی ہنا پر یا اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے، ان کی مصلحت اندیشی لا یعبأہ اور باخبر لوگوں کے نزدیک لغو ہے۔

(۳) دینی خدمات آپ حضرت نافتو ہی

کے ارشد تراندہ میں سے تھے اور حضرت کے بعد قاسمی علوم کا جو فیضان عالم میں آپ کی، ذات سے ہوا اس کی نظیر دروس سے تلامذہ میں نہیں ملتی۔ اپنے استاد میں فانی استاد کے

مشاہیر دارالعلوم

اور جو خدمات آج ہم دیں
علم میں غریق تھے۔ دین کے ہر دائرے میں آپ
کی خدمات نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ درس تصنیف
ارشاد و تلقین اور جذبہ جہاد وغیرہ میں آپ کی
خاموش خدمتیں زبان حال سے گویا ہیں۔ آپ
اپنے استاد حضرت نافتو ہی کے علوم کے میں اور
خوبینہ دار تھے۔ آپ نے ان علوم کی ایضاح و
تفصیل اور تفہیم و تیسیر میں نمایاں حصہ لیا۔ اور
علیم خدمت انجام دی۔ حضرت نافتو ہی کی
تصانیف کی اعلیٰ ترین طباعت بر ترین حواشی
و عنوانات آپ ہی نے شروع فرمائی۔ اور جست
الاسلام پر آپ ہی نے سب سے پہلے عنوان
قامہ کئے۔ قرآن شریعت کا ترجمہ فرمایا۔ بھماری
کے ابواب و تراجم پر ایک جامع اور دیزیر رسالہ
تفسیر فرمایا۔ متعدد مناظراتہ تصانیف بھی
فرمائیں اور مناظرے بھی کئے۔ دارالعلوم دیوبند
میں چالیس برس تک مسلسل درس حدیث و تحریک
(۸۴۰) اعلیٰ استعداد کے صاحب ملک عالم دین
فاضل علوم اور ماہرین فنون پیدا کئے۔ آپ کا
درس حدیث اس دور میں امتیازی شان رکھتا
تھا، اور مرجع علماء تھا۔ آپ کو علماء عصر نے خدش
عصر تسلیم کیا۔ بیعت و ارشاد کے راستہ سے
ہزارہا تشنگان معرفت کو عارف اللہ بنایا اور

اسمار گرامی مشاہیر دارالعلوم اور بخدمات انجام دیں

ٹوپی عرصہ تک بحیثیت صدر المدرسین فائز رہے اور آخر عمر تک درس حدیث میں منہک رہے۔ آپ علوم قاسمیہ کے امین تھے اور ان کی ترویج میں عمر بھرنا یا حصہ لیتے رہے اپنی مخصوص صلاحیتوں کے لحاظ سے آپ علوم قاسمیہ کی محنتم تعمیر اور بالفاظ دیگر حضرت نافتوتویؒ کے مشیل شمار کئے جاتے تھے۔ آپ کافیضان علمی دور دور تک پہنچا اور سینکڑوں طالب علم آپ کے درس سے عالم و ناشر بن گرتے۔ عالم بے مثل حضرت مولانا عبدالرحمنؒ؛ ان صاحب خور جویؒ، مفسر شیر حضرت مولانا عبدالرحمنؒ صاحب امر و ہوشؒ اور اس قسم کے دوسرے اور بھی بہت سے ماہرین علم و فضل آپ کے تلامیذ ہیں جن سے علم دین پھیلا۔ اور ایمان دعوانا کا رنگ دلوں میں جما۔

(۴) حضرت مولانا حکیم جمیل الدین صاحب نگینویؒ

آپ شہر پوراطبائی سے تھے جیکم اجمل خال صاحبؒ کے اتنا دن تھے طبیعت کا لمحہ دہلی کے مقنون رہے آخر دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن بھی ہو گئے تھے۔ باوقات بزرگ، محدثات کے شریت سے پابند، ذاکر و شاغل، تہجدگزار اور شب بیدار لوگوں میں سے تھے علم نہایت راسخ اور بخرا ہوا تھا۔ ابتدأ غازی پور میں قیام رہا۔ آخر میں دہلی کو اپنا دل میں بنالیا۔

(۵) حضرت مولانا عبد العلی صاحب دہلویؒ

آپ حضرت مولانا نافتوتویؒ کے ارشد تلامذہ میں سے تھے۔ دہلی کے محترث شمار ہوتے تھے۔ مدرسہ عبدالرب دہلی میں ایک طویل مدت تک بحیثیت صدر مدرس درس حدیث دیا۔ آپ نے سینکڑوں شاگرد پھوڑے۔ تقویٰ، طہارت اور استقامت میں آپ خود ہی اپنی مثال تھے، اخیری سانس تک جماعت کی فماز اور صفت اولیٰ ترک نہیں ہوئی تھی۔ اخیری ٹرم فارغ کا اثر ہو گیا۔ نقل و حرکت سے معدود ہو گئے۔ اسی حالت میں جنم کے طبق خدام آپ کو اٹھا کر صفت اولیٰ میں رکھ دیتے تھے اور آپ بیٹھ کر امام کی اقتدار کرنے تھے۔ پہنچ اسادر میں فنا بیت کا درجہ رکھتے تھے اور ہر وار دوسارے سفر نے تھے کہ "قاسمی بن جاؤ محمد" تھے۔ آپ مدرسہ جامع مسجد اموہر میں جسے حضرت نافتوتویؒ نے قائم فرمایا تھا۔ ایک

مشاہیر دارالعلوم اور جو ندیات انجام دیں

آپ کا سلسہ طریقت بندوستان سے گزر کر افغانستان اور عرب تک پہنچا۔ متعدد ملکی تصنیعات آپ نے ترکی میں چھوڑیں۔

(۶) سیاسی خدمات اسندوستان کو عنز ملکیوں سے آزاد کرنے کے لئے ایک زبردست انقلابی تحریک چلائی جس کو ریو والٹ کہی کی، رپورٹ میں رشیٰ رومال کی تحریک کے نام سے موسم کیا گیا ہے۔ یہ تحریک بہت زیادہ موثر تھی مگر راز میں سرہ سکی اور ناکام ہو گئی۔ پھر بھی اس کی آگ جن کے دلوں میں لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے آئندہ کام کر کے بندوستان کو آزاد کرایا۔ آپ انقرہ سے پانچ برس ماثا میں قید ہے۔

(۷) حضرت مولانا عبداللہ صاحب امینی ٹھوڑی

آپ حضرت بانی دارالعلوم دیوبند کے داماد تھے۔ حضرت کے تلامذہ میں سے بھی تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ کے خلیفہ نجاشی تھے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کے پاس ہر صد تک قیام رہا۔ سر سیدؒ نے آپ کو علی گڈھ بلاک مسلم یونیورسٹی میں ناظم ویلنیات کے عہدہ پر فائز کیا۔ سر سید اس پر اظہار سرست کیا کرتے تھے کہ مسلم یونیورسٹی علی گڈھ بھی مولانا محمر قاسم صاحبؒ کی نسبت نے خالی نہیں ہے اختر نے بھی مولانا عبداللہ صاحبؒ اجانت حدیث حاصل کی ہے۔

(۸) حضرت مولانا سید احمد حسن صاحب امر و ہویؒ

آپ حضرت نافتوتویؒ کے مخصوص تلامذہ میں سے تھے اور جلیل القدر محدث تھے۔ آپ مدرسہ جامع مسجد اموہر میں جسے حضرت نافتوتویؒ نے قائم فرمایا تھا۔ ایک

مشاہیر دارالعلوم

اور جو ندیتا نجات دیں

نہیں رہو گے یہ حکیم الامت حضرت مولانا تھانویؒ جیسے اکابر آپ کے تلامذہ میں سے تھے۔
۸۱) حضرت مولانا نواب مجی الدین خاں صاحبؒ

آپ بھی حضرت ناقوتویؒ کے مخصوص تلامذہ اور جلیل القدر علماء میں سے تھے۔ ریاضہ بھبپال میں آپ مفتی کے عہدے پر فائز رہے۔ آپ کے علم اور پاکیزہ زندگی سے بھبپال اور اس کی ریاست نے بر سہاب رس فیوض و برکات حاصل کئے۔ آپ گھر کے نواب اور امام میں سے تھے۔ آپ کے والد بادشاہ دہلی ظفر شاہ کے مصائبین خاص میں سے تھے۔ اور حضرت ناقوتویؒ کے معتقد تھے حضرت ناقوتویؒ نے جہاد کے مسلسلہ میں ان ہی کے ذریعہ بادشاہ نگ اپنی سیکم ہنپاٹی تھی۔ شاہ ظفر جب انحریزوں کے خلاف اٹھتے تو ایک جنگی سور پر مدد و نجی سربراہ تھے۔

(۹) حضرت مولانا صدیق احمد صاحب امیدی طھوی

آپ بھی حضرت ناقوتویؒ کے تلامذہ میں سے تھے۔ اور دارالعلوم دیوبند میں بھروسہ تک رہ کر تعلیم حاصل کی اور پھر دارالعلوم ہی میں عصر ہمک رس بھی دیا۔ دارالعلوم سے مالو کو ٹکڑہ تشریف لے گئے اور وہاں ریاست کی طرف سے عہدہ انتار پر فائز ہوئے۔ مشائیل افمار میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ عمر کا آخری حصہ تمام مالیر کوٹلہ میں عہدہ افمار پر ہی گزارا۔ وہیں آپ کی وفات ہوئی۔ مسیح الدک حیکم اجمل خاں صاحبؒ بھی آپ کے شاگردوں میں سے تھے۔ آپ صاحب بیعت ارشاد بزرگوں میں سے تھے جن سے ایک بڑے حلقة تربیت بالطہنی حاصل کی۔ خواجہ فیروز الدین مر جوم کا ذریثہ جزل ریاست کپور تحلہ آپ کے مخصوص متولیین میں سے تھے جو دارالعلوم کی مجلس شوریٰ کے ممبر ہے ہیں۔ احرفہ عقیدہ شیخ البہنڈگی وفات کے بعد کچھ دنوں آپ سے بھی تربیت بالطہنی حاصل کی ہے۔ عالم عقیدہ و عالیہ میں ہمارت تامہ رکھتے تھے۔ اور آپ کی تدریس میں ایک خاص برکت تھی جو مسروہ ہوتی تھی۔ دارالعلوم کے درجات ابتدائیہ کے مختصر تھے۔ صاحب اسرار و معارف تھے۔ اور اکثر وہ بیشتر آپ کی تشریف اور ہی دیوبند کے موقع پر اساتذہ و طلباء آپ کے حلقوں میں

جو ندیتا نجات دیں

اور

مشائیل دارالعلوم

بیکر مستقبل کے بارے میں باتیں پوچھتے تھے اور آپ بطوشیں گولی کچھ فرمادیا کرتے تھے۔ آپ کا تغیری و طہارت مسلم اور نایاں تھا۔ شب بدار علماء میں سے تھے۔

(۱۰) حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانی

آپ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے بادشاہ مفتی بیکر دارالعلوم میں اولاد فنا کا نظٹ آغاز ہیں۔ دارالعلوم میں دارالوقا کی منصبیت صورت آپ ہی کے وجود باوجود سے معرض وجود میں آئی۔ آپ عارف باللہ، صاحب درس و تدریس، صاحب بیعت ارشاد اور مرتب اخلاق بزرگ تھے۔ آپ حضرت مولانا شاہ فیض انہیں صاحب یوبندی قدس سرور کے خلیفہ مجاز تھے جو حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب محدث دہلوی کے ارشد خلفائیں سے تھے۔ آپ سے دارالعلوم کے حلقوں نے ظاہری و باطنی فیوض و برکات کافی حد تک حاصل کئے۔ افتخار کی ندیتا کے ساتھ ساتھ حدیث، فقہ اور تفسیر کے اونچے اس باقی ہی میں سے تھے۔ آپ پڑھاتے تھے، جلدیں تشریف میں احرفہ نکارہ کو بھی حضرت مفتی عظام ہی سے تلمذ حاصل ہے۔ آپ کا بیعت دارشاد کا سلسلہ بھی کافی پھیلا۔ آپ ہی کے خلیفہ عظام حضرت مولانا فارسی خدا سماحت صاحب میر شعیٰ تھے جن کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا بدر عالم صاحب میر شعیٰ ہبہ جرمدنی ہیں۔ جن سے عرب اور افریقیہ میں فتح بدر طریق کا کافی شیوع ہوا اور سینکڑوں کی اصلاح ہوئی ساؤنڈ افریقیہ اور ایسٹ افریقیہ کے لوگ جب جج کے لئے حاضر ہوتے ہیں تو اکثر وہی شریست مولانا بدر عالم صاحب بہ مذکورہ کے حلقوں کے حلقہ بیعت میں داخل ہو کر جاتے ہیں۔ ابتداء میں حضرت مفتی عظام ہی حضرت ہبہتم صاحب کی غیبت میں نیابت اہتمام کے فرائض انجام دیتے تھے۔ بہر حال دارالعلوم آپ کے علم، سلوک، افتخار انتظام وغیرہ سے سارے ہی شعبوں میں مستفید ہوتا رہا۔

(۱۱) حضرت مولانا اشرفت علی صاحب تھانوی

آپ حیکم الامت، مشہور محدث، عارف باللہ، فقیہ اور بزرگ تھے۔ آپ دین کے ہر شعبہ کے کاموں کے لیے من الشہ موافق تھے۔ ۲۵ برس کا ان پورے کے درس لئے اب مولانا بدر عالم صاحبؒ کا استقال ہو چکا اور عزیز منورہ کے شور بریشان پیغام میں مدفن میں اُٹھا

مشاہیر دارالعلوم اور بخوبیات انجام دیں

جامع العلوم میں درس قرآن و حدیث و یادیں سے آپ کے تلامذہ ملک کے ہر خطرے میں بھی گئے۔ ہندوستان کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا کہ سفر کر کے عواظ و تبلیغ نہ فرمایا ہو، تصنیف کے میدان میں قدم رکھا تو ہر علم و فن میں ہزار سے اور پر تضانیت درش میں چھوڑیں۔ آخر میں خانقاہ امدادیہ تھا جہون میں مقیم ہوئے تو ہندو بیرون ہند کے ہزارہا انسانوں کی بیعت دارشاد کے مسلم سے داخل فربا۔ بڑی تعداد میں آپ کے خلافاً ہیں جنہوں نے مختلف خطوط میں اصلاح و تربیت کا کام مختلف رمکوں سے انجام دیا۔ آپ حضرت مولیٰ محمد عقوب صاحب اولین صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند سے زیادہ مستفید ہیں جو بعد اُنہیں حضرت نافتویؒ سے بھی مستفید ہیں نیز آپ حضرت نافتویؒ سے براہ راست بھی بعض تفسیری دروسوں میں مستفید ہوئے۔ حکم الامریت کا القب آپ کے لئے اسم پاسئی تھا۔ ہر حال آپ کی تفسیر، تحریر، تصنیف اور تبلیغ سے لاکھوں مسلمانوں کو علمی و عملی فیض پہنچا اور ہزاروں مسلمانوں کی باطنی اصلاح ہوئی۔ آپ دارالعلوم میں اس سال بغرض حسوا، تعلیم و تشریف لائے تھے جس سال حضرت نافتویؒ کا وصال ہوا۔ اس لئے حضرت نافتویؒ سے مزید استفادہ نہیں فراہم کیا۔ مگر حضرت کے تلامذہ شلا صفرت شیخ الہند حضرت مولانا عبد العلی سے ادب اور حضرت مولانا محمد عقوب سے ادب تھے اسے تفاوٹ کا لات کیا۔

(۱۲) حضرت مولانا حافظ عبدالرحمن صاحب امروہی

آپ حضرت احمد حسن صاحب امروہیؒ کے ارشد تلامذہ میں سے تھے تفسیر کے بعض اباق حضرت نافتویؒ سے بھی پڑھے۔ ان دونوں بزرگوں کے فیوض سے آپ کے اوپر حدیث، فقہ اور تفسیر وغیرہ کے اباق میں متکلمان رنگ غالب تھا۔ جلگہ جگہ حضرت نافتویؒ کے علم کا حوالہ بھی دیتے تھے اور انہیں وضاحت کے ساتھ بیان بھی فرماتے تھے۔ امروہہ میں ایک عرصہ تک درس دیا اور آخر میں کچھ عصر جب کہ میں حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدینی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار کر لئے گئے تو دیوبند میں بھی بعہدہ صدر مدرسی درس حدیث دیا ہے۔

مشاہیر دارالعلوم اور بخوبیات انجام دیں(۱۳) حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحبؒ

آپ حضرت بانی دارالعلوم کے صاحبزادہ تھے۔ علم و فضل کی لائیں میں آپ کی تفہیم ضرب المثل تھی۔ دارالعلوم دیوبند کے مہتمم خاص ہوئے۔ مگر دو راستا میں بھی درس تدریس کا مشغله نہیں چھوڑا۔ مشکوہ۔ جلالیں، صحیح مسلم اور منطق میں بیڑا ہد وغیرہ آپ کے درس میں رہتی تھیں۔ مشکوہ اور مسلم حضرت بھی انہیں سے پڑھی ہے کہ انہیں سے کٹھن مسئلہ کو اپنے انداز تفہیم سے پانی کر دیتے ہیں۔ آپ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ کے متول اور خلیفہ تھے۔ بیعت دارشاد کا سلسلہ بھی تھا مگر کم۔ زیادہ مصروفیت نظم دارالعلوم اور اہتمام میں رہتی تھی۔ آپ کا چالیس سالہ دور سمجھا جاتا ہے۔ یہ دینی ادارہ مدرسہ کی حیثیت سے ترقی کر کے آپ ہی کے دراہتمام میں "دارالعلوم" بنا۔ اور اس کا حلقة اشہد ہندوستان کے تمام خطوطوں میں زیادہ چھپا۔ آپ مشاہیر سینہ میں سے تھے۔ زیادہ انہیاں کا انتظام دارالعلوم اور درس تدریس میں تھا لیکن وقتی طور پر انکی سیاست میں بھی کم و بیش آپ نے حصہ لیا۔ چنانچہ جمعیۃ العلماء روہیکھنڈ کے اجلاس عام مراد آباد کی آپ نے صدارت فرمائی اور ۳ ربیع الثانی ۱۳۵۹ھ کو اپنا خطبہ صدارت پڑھا۔ جو اس زمانہ میں کتابی صورت میں شائع بھی ہوا جس میں انگریزوں سے ترک موالات پر زور دیا گیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے عہدہ اہتمام کی عظمت کے پیش نظر نظام و کن نے آپ کو حیدر آباد کے عہدہ مفتی عالت عالیہ کے لیے نامزد کر کے بلانے کی استدعا کی جسے کوئی دیر آباد کے عہدہ مفتی عالت عالیہ کے لیے نامزد کر کے بلانے کی استدعا کی جسے آپ نے مشورہ جماعت منظور فرمایا اور چار سال وہاں گزارے۔ واپسی پر بھپر بستور اپنے فرائض سنپھال لئے۔ آپ کا اخلاص اور فلسفہ و بادشاہی کی بیجانی جماعت میں علم تھی آپ کی آبائی نسبت کی عظمت کی وجہ سے خصوصیت کے ساتھ آپ کے اساتذہ بھی آپ کا احترام کرتے تھے۔

(۱۴) حضرت مولانا جبیب الرحمن صاحب عثمانی دیوبندی

آپ دارالعلوم دیوبند کے چہٹے مہتمم تھے۔ حق تعالیٰ نے آپ کو دین کا خامی

مشائیر دارالعلوم

اور

بخدمات انجام دیں

فہم عطا فریا تھا۔ آپ کی دانش و تدبیر مشہور زمانہ تھی۔ ادبیات کے ماہر تھے۔ عربی نظر و زبان دونوں پر کمال قدرت رکھتے تھے۔ دارالعلوم کے نظم و نسق نے آپ کے تدبیر و دانش سے عظیم استفادہ کیا۔ آپ کی اس دانش و بینش اور علمی شخصیت کی بناء پر حکومت جیدہ تباہ کا عہدہ افتخار مولانا حافظ محمد صاحبؒ کے بعد آپ ہی کو تفویض کیا گیا تھا۔ آپ کا حلم، تواضع، مرتوت اور تحمل مشہور زمانہ تھا۔ آپ حضرت گنگوہیؒ کے منتوں اور طریقت کے معلولات کے نہایت پابند تھے۔ وفات کے دن مجھ سے حضرت کے ساتھ فرمایا کہ میر بارہ ہزار اسم ذات افسوس کر آج پورا نہیں ہو سکا۔ شب بیدار اور ہر وقت مشغول کاہ بنتے تھے۔ ان کی مجلس پرشکوہ اور مرث طہائیت ہوتی تھی۔ کئی عربی قصیدے اور کئی مفید ترین تصنیفیں آپ کا ترکہ ہے جو اقتدار کو ملا۔ ان میں اشاعت اسلام، ایک معزکۃ الاراء تصنیف ہے جو مقبول خواص و عام ہے۔

(۱۵) مولانا حکیم عبدالوہاب صاحب یوسف پوری (صلی اللہ علیہ وسلم) میں نہیں آپ ولی کے مشہور طبیب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق مرید اور علوم وینیر کے ماہر تھے۔ نابینائی کی حالت میں تحصیل علم کی۔ اور جہارت تائبہ پیدا کی۔ حضرت مولانا محمد عیقوب صاحبؒ کے تلامذہ میں ہے۔ آپ کی طالب علمی کے زمانہ میں یوروپ کا ایک سیاح دارالعلوم ویکھنے آیا تو اُس نے اپس ہو کر یوروپ کے اخبارات میں دارالعلوم کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ دارالعلوم میں پہنچ کر میری حرمت کی انتہائی رہی جب میں نے دیکھا کہ ایک نابینا طالب علم اپنے ساتھیوں کو اقليدیں کا تکرار کراہتا۔ اور اقليدیں کی مشکل شکلیں سامنے کے طالب علم کی کر پرانگل سے پہنچ کھینچ کر اسے سمجھا رہا تھا۔ یہ طالب علم ہمیں حکیم عبدالوہاب صاحب تھے۔ بعد تعلیم حضرت اقدس مولانا گنگوہیؒ سے بیعت کی اور حضرت کی محبت سے مستفید ہو کر یا (طفی) کمال پیدا کیا۔ خود مجھ سے ایک دفعہ ذکر فرمایا کہ میں نے طب پڑھنے کے بعد حضرتؒؒ نے عرض کیا کہ ذریعہ معاش کے طور پر میں نے طب پڑھنے لی ہے میں نکن اطباء مریض، کاچھروہ مہروہ دیکھ کر قار و رہ

مشائیر دارالعلوم

اور

بخدمات انجام دیں

دیکھ کر اور دوسرے مشاہدات سے مشاہدات کی تشخیص کرتے ہیں لیکن میں ناپینا ان تمام مشاہدات سے متفاہد ہوں اور چاہتا ہوں کہ معاش اس فن (طب) سے پیدا کروں۔ اس لئے میرے حق میں دعا فرمادیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیاضی کی وجہات عطا فرمائیں گے اور تم بعض دیکھ کر وہ مقام باقی معلوم کرو گے جو دوسرے اطباء مشاہدات سے معلوم کرتے ہیں۔ یہ فحصہ سن کر فرمایا کہ الحمد للہ میں اپنے شیخ کی اس کرامت کو روزانہ مشاہدہ کرتا ہوں اور بعض پرہاتھ رکھتے ہی مجدد پر مرض اور مریض کے حوالہ کی تمام نواعیں مکشف ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ان کی بعض شناسی کی وجہات اس درجہ میں پہنچ چکی تھی کہ باپ یا جہاں کی بخش دیکھ کر بیٹھے اور دوسرے بھائی کے حوالہ مرض بتا دیا کرتے تھے۔ باہم جو دعائی استخادر کے شغل آخر تک طب اور مطلب ہی کا غالب رہا۔ اور اسی میں پوری عمر گذاری لوگ شفا بدن کے ساتھ اُن کے تقویٰ و طہارت اور معلولات کی پابندی اور سختی سے شمار درج بھی حاصل کرتے تھے۔

(۱۶) حضرت مولانا سید مرثیہ حسن صاحب چاند پوری

آپ حضرت مولانا محمد عیقوب صاحبؒ کے ارشد تلامذہ میں سے اور حضرت تھانویؒ کے مخصوصوں میں سے تھے۔ ذکری طبیاع اور تیریز فہم علماء میں سے تھے۔ آپ کی تقریب مروفت اور مشہور تھی۔ زبردست مناظر تھے۔ مبتدی عین اور قادریاں یوں کوتاہ بڑوڑاہ اپ ہی نے پہنچایا۔ عرصہ دراز تک درجہ تک اور مرا ادا آباد و غیرہ میں صدارت تدریس کے فرشت انعام دیئے اور آخر میں دارالعلوم کے عہدہ نظامت تعلیم اور پھر نظامت تبلیغ پر فائز ہو گئے۔ دارالعلوم میں درس و تدریس کا سلسہ بھی جاری رہا۔ آپ کی نمایاں و غیرمعمولی خطابت نے ملک کے گوشہ گوشه کو مستفیض کیا۔ آپ کو روبدھات اور رہنماییت سے ناس شفعت تھا اور اس سلسلہ میں آپ کی بہت سی قابلٰ قدر نمائیت ہیں جو جمع ہو گئی ہیں۔

(۱۷) حضرت مولانا بھرم الدین صاحبؒ

سابق برنسپل اور میل کالج لاہور۔ آپ مشہور علمیں و علماء میں نام تھے۔ لاہور کے علی

مشایر دارالعلوم

حلقوں میں آپ کے علم کی خاص شہرت تھی۔

(۱۸) حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری

سابق صدر المدرسین والعلوم دیوبند۔ اپ حضرت شیخ الدنڈ کے مخصوص شا
میں سے ہیں۔ علم کا چلتا پھر تکتب نہ ادا تھے۔ آپ تمام علوم منقولات و معمولات میں کلم
وستگاہ رکھتے تھے۔ قوت حافظہ میں یگانہ روزگار تھے کئی مشہور محدثین کتابوں کے
مصنف ہیں۔ آپ کا درس حدیث اپنے در در کا مشہور درس خقا جو ایک خاص انتیاز ہے
ظریٹے ہوئے تھا۔ آپ کے تحریر علی نے درس حدیث کو جامع علوم دفنون بنادریا تھا۔
کے درس نے نقل فرمائی کی رہا سے آئے والے فتنوں کے لئے آئے کی وجہ پر
نہیں چھپوڑی تھی۔ آج بھی نمایاں علماء اور صاحب طرز فضلاء زیادہ تر آپ ہی کے تلامیز
ہیں جو ہندو پاک میں علمی مستدوں کو ادائیت کئے ہوئے ہیں۔ آپ کے یہاں روز قادیانیت
کا خاص اہتمام تھا۔ اور اس فتنہ کو عظیم الفتن شمار کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں کئی معمر کاظم
کنیتیں خود بھی تصنیف فرمائیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے تلامذہ سے بھی تکھدوائیں
اس بارے میں بڑے شغف کے ساتھ لکھنے والوں کو علمی مدد دیتے تھے۔ اور کوئی بھی
اپنا نوشہ لا کر سناتا تو غیر معمولی خوشی کا ظہار فرماتا کہ دنیا میں دیتے تھے۔ تقریباً ۱۳۲۶ھ
سے آپ نے دارالعلوم میں درس کا آغاز فرمایا۔ ۱۳۲۵ھ سے ۱۳۲۷ھ تک آپ دارالعلوم
کے صدر درس رہے۔ اس دوران میں تقریباً ایک ہزار طلبہ نے آپ سے استفادہ کیا۔ جن
میں سے آپ کے در صدر درسی میں ۸۰۹ طلبہ نے درس حدیث لیا اور اس فن پاک
تقریباً و تحریر اور درس اونڈر ریس اور در در تک پہلیا۔

(۱۹) حضرت مولانا شاہ وارث حسن صاحب لکھنواری

اپ مشہور صاحب سلسلہ بزرگ تھے حضرت گنگوہی کے خلیفہ مجاز تھے۔ وارالعلوم میں تعلیم حاصل کی، انگریزی والان طبقہ بالخصوص گورنمنٹ کے پڑسے پڑسے عہدیداً آپ سے زیادہ مستفید ہوئے۔ ابتداء عہدیداً آپ سے بعض خوارق کا خلیفہ بھی ہوا ہے۔

متأهیہ دارالعلوم اور جو خدمات انجام دیں

رہشت کافی کی اور آپ پر اس کے اشارت نمایاں تھے۔

(٢٠) حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحبؒ

محمدث مدرسہ ایجنسیہ دہلی، مفتی اعظم ہندوستان۔ اپنے زمانے کے مشہور و ملمعی اور فقیہ تھے حضرت شیخ الہندؒ کے ارشد تلامذہ میں سے تھے تکمیر علمائیں سے تھے تدریس و ادار کے ساتھ سیاسی لائن میں بھی نمایاں کام انجام دیا۔ آپ ہی جمعیۃ العلماء ہند کے سب سے بزرگ صدر ہوئے اور عرصہ دوازدھ صدر رہے جمعیۃ العلماء اور کاظمین کی تحریکوں میں قیادت حاصلہ لیا۔ کمی مرتب جیل گئے۔ آپ کا علم و فہم علماء میں تسلیم شدہ تھا۔ حضرت تھانویؒ بھی مردم شناس ہستی نے فرمایا کہ میں مفتی کنایت اللہ کے نمابر اور مولیٰ حسین احمد کے بوش عمل کا معتقد ہوں۔ مجموعی طور پر آپ فقیہ، محدث، مفتی، مجاہد اور نکتہ سنج علماء دیوبند میں سے تھے۔

(۲۱) حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مرنی

آپ دارالعلوم دیوبند کے پانچویں صدر المدرسین تھے حضرت شیخ البہنڈ کے مخصوص نادہ میں سے تھے علم و فضل کے ساتھ غیر معمولی مقبولیت رکھتے تھے حضرت گنگوہیؒ خلفاء رجایہ میں سے تھے، علم سے فراغت کے بعد اپنے الدمر حوم کے ساتھ ۱۳۱۶ھ
میں مدینہ طیبہ سُنْحَی اور اٹھارہ (۱۸) سال مدینہ منورہ میں رہ کر مختلف علوم و فنون اور بالخصوص
مدینہ شریف کا درس دیا۔ زندگی کمال زید و فناعت کی تھی جو کمال صبر و تحمل سے اس بہت
لہا بسرا ہوئی۔ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران ۱۳۱۸ھ میں ہندوستان تشریف لائے پھر
۱۳۲۰ھ میں واپس تشریف لے گئے۔ ۱۳۲۴ھ میں دارالعلوم میں بحیثیت مدرس آپ کا
تشریف ہوا ۱۳۲۹ھ تک درس دیا۔ پھر اسی سال مدینہ منورہ تشریف لے گئے ۱۳۲۹ھ
اپنے ہندوستان واپس تشریف لائے اور اسی سال مدینہ منورہ واپس تشریف لے گئے
۱۳۳۵ھ میں حضرت شیخ البہنڈ کے ہمراوجا ہی میں سیر کر کے مالٹا بیچ دیئے گئے ۱۳۳۹ھ
کہ مالٹا سے رہا ہو کر حضرت شیخ البہنڈ کے ہمراہ ہندوستان تشریف لائے اور اسی سال

مشاہیر دارالعلوماوربخدمات انجام دیں

اکابر کے حکم سے جامعہ اسلامیہ امروہ میں صدارت تدریس کی خدمات انجام دیں۔ پھر ۱۳۲۹ھ میں مدرسہ عالیہ کلکتہ میں صدر مدرس رہے۔ مگر تھوڑے ہی عرصہ کے بعد ۱۳۳۰ھ میں ہی جامعہ اسلامیہ سلہٹ میں شیخ الحدیث کی حیثیت سے آپ کا تقرر ہو گیا۔ سلہٹ میں آپ ۱۳۳۵ھ تک قیام پذیر ہیں جو حضرت علامہ سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری کے ڈا بھیل تشریف لے جانے پر آپ شوال ۱۳۲۵ھ میں دارالعلوم دیوبند کے صدر درستہ بنائے گئے۔ آپ بڑے درجہ کے محدث تھے۔ حدیث کے مشہور اسکالر تھے۔ آپ کا درس حدیث بہت مقبول تھا۔ کئی تصانیف فرمائیں جو سیاست اور تصوف پر ہیں ۱۳۴۵ھ تک تین (۳۳) برس دارالعلوم میں صدر مدرس اور ناظم تعلیمات بہے۔ اس دوران میں ۲۳۸۷ طلبہ تے آپ سے بخاری اور ترمذی پڑھ کر دورہ حدیث سے فراہست حاصل کی۔ آپ ان تعلیمی خدمات کے ساتھ ساتھ اپنی ہمت مردانہ سے سیاسی کامیابی پوری تدبیحی سے انجام دیتے رہے۔ اسی دوران میں آپ جمیعت العلماء ہند کے بار بار صدر پینائے گئے۔ آپ جمیعت العلماء دارکانگریں کے قائدین میں سے تھے۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں تھاںیاں حصہ لیا۔ اور سر و هطر کی بازی رکاوی۔ کئی مرتبہ جیل گئے اور آخر کار ملک کو آزاد کرایا۔ بہر حال مجموعی حیثیت سے آپ عالم، فاضل، شیخ وقت، مجادل، جفاکش، بھری اور اولو العزم فضلاً بردارالعلوم دیوبند میں سے تھے۔

(۲۲) حضرت مولانا عبد اللہ صاحب سندھی

سابق ناظم جمیعتہ الانصار دارالعلوم دیوبند۔ سکھہ مفت سے آپ دائرة اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے فاضل اور حضرت شیخ ہند کے مخصوص تلمذہ میں سے تھے۔ غیر معمولی ذکاوت، ذہانت اور حافظت کے ماں تھے۔ دماغ خلقی طور پر سیاسی تھا۔ سیاست میں گہری برق تھی۔ ابتدائی تھی اور بعد میں شاہداقی انداز میں۔ یوز و پا اور ایشیا کے بہت سے انقلابات آپ کے سامنے گزرا۔ اس لئے سیاسی اسکیوں کی ساخت و پروگرام ملک محاصل تھا۔ آپ نے

مشائیر دارالعلومبخدمات انجام دیںاوربخدمات انجام دیں

نرت شیخ ہند کی تحریک رشیٰ رومال میں سرگرم حصہ لیا۔ افغانستان کی آزادی کی اسکیم پر ہی نے مرتب فرمائی تھی۔ ۲۵ سال تک جلاوطن رہے۔ واپس تشریف لاکر فاسد ولی نبی سے ملک کو روشناس کرایا۔ سندھ ساگر کا کاظمی اور محمد قاسم ولی اللہی سوائی قائم کی نے حضرت نافتوی اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کے علوم کی کافی خدمت کی۔ افغانستان میں آپ تے اندیں نیشنل کانگریس کی ایک پاٹا بسطہ شاخ قائم کر کے افغانستان رونگ میں ہندوستان کی ہمدردیاں حاصل کیں۔ آپ کانگریس میں شرکت کے حامی تھے۔ مگر انفرادی حیثیت سے نہیں بلکہ منہجِ القوم۔ دارالعلوم میں آپ نے جمیعتہ الانصار میں جس کے بڑے بڑے دو اجلاس مراد آباد اور میرٹھ میں ہوئے اور اس کے حلقة پر میں وسعت اور قوت پیدا ہوئی۔ آپ دارالعلوم کو ایک علی انداز سے ملی تغییم کا مرکز بنانا چاہتے تھے جس کا نقش اول جمیعتہ الانصار کا قیام تھا۔

(۲۳) حضرت مولانا محمد حبیب صاحب بہرامی

آپ مدرسہ عالیہ کلکتہ میں پرنسپل تھے۔ مشہور عالم ذی استعداد فاضل ہیں۔ مدرسہ کلکتہ کے راستے سے آپ کا علمی فیضان بنگال کے گرد و نواح میں کافی پھیلا۔ متواضع ذمہ اور غلیق علماء میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔

(۲۴) حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب پشاوری

آپ افغانستان میں قاضی القضاۃ کے عہدے پر فائز رہے۔ حکومت افغانستان میں آپ کا خاص وقار تھا۔ آپ وہاں کی پریوی کونسل کے صدر بھی تھے اور شرعی احکام میں آپ کا فیصلہ آخری ہوتا تھا جس پر با دشاء اور حکومت سب سر جھکا دیتے تھے۔

(۲۵) حضرت مولانا عبدالعزیز صاحبؒ

خطیب جامع مسجد گوجرانوالہ۔ آپ قابل قدر علم کے حامل تھے۔ ارشاد ملباری۔ آپ کی مشہور تالیف ہے، بہرہ علم رکھتے تھے۔ اور حضرت شیخ ہندؒ کے شاگرد رشید تھے۔

مشاہیر دارالعلومبودھرات انجام میں(۲۶) حضرت مولانا محمد سہول صاحب بھاگپوری

آپ دارالعلوم کے ممتاز ایناں قدیم میں سے تھے۔ دارالعلوم سے فارغ ہوئے کے بعد مختلف میں مدارس میں آپ نے مدرسی کی۔ مدرسہ الہمنی پٹنہ کے پرنسپل رہے۔ دارالعلوم دیوبند میں تقریباً ۱۰ سال درس دیا۔ پھر تقریباً ۱۵ سال یہاں کے منفی کی حیثیت سے کام کیا۔ بعد ازاں مدرسہ عالیہ سلیمانی میں صدر مدرس ہو کر ترتیب لے گئے اور عمر کا آخری حصہ وہیں گزارا۔ آپ کا علمی فیض بہت ہوا۔ بیش لاکھ دانشجوی اور فاضل علماء آپ کے شاگردوں میں سے تھے۔ مددوہ رقت قلب کے ساتھ صاحب دل تھے اور اکابر و اسلاف کے نقش قدم کے نسبت بھی رہے۔

(۲۷) حضرت مولانا محمد میاں صاحب منصور انصاری

آپ حضرت نانو توی کے نواسے تھے۔ حضرت شیخ الہند کے خاس معتمد تلمذیہ رشید تھے۔ ابتداء حضرت شیخ الہند کے علمی کاموں میں شریک رہے اور اخلاقی استفادہ کیا۔ پھر حضرت کے سیاسی منصوبوں میں شریک ہوئے اور آخر کار حضرت کے ائمہ اور راز دار فقادری میں شمار ہوئے۔ رشی خطا کو جائز سے لے کر آپ ہی روانہ ہوتے۔ اور بیانوی حکام کی انتہائی کوشش کے باوجود وہاں کے قبضہ میں رہ آسکے۔ اور بیجا سے پشاور تک مخفی سفر کیا۔ ہندوستان کی سرحد پار کر کے افغانستان میں داخل ہو گئے اور رشی خطا اپنے موقع پر پہنچا دیا۔ کابل کا انقلاب آپ کے سامنے ہوا۔ بچپن سققلی چند روزہ حکومت میں آپ کو کابل سے بھی جلاوطن کر دیئے جانے کا آرڈر دیا گیا۔ اور آپ کسی نہ کسی طرح کابل سے روپوٹی کے سامنے وہیں کی سرحد میں داخل ہو گئے اس عرصہ میں افغانستان میں انقلاب ہو گیا اور جیزی ناد رہشاد حکماں ہو گئے۔ انہوں نے مولانا کو عتیقدت کے ساتھ پھر بلایا۔ اور روسی سفارت خانہ میں بحیثیت نائب سفیر آپ

مشاہیر دارالعلوم اور بودھرات انجام دیں

وروس بھیجا گیا۔ وہاں سے واپس پرستقلال آپ کابل میں مقیم ہوئے۔ ۱۹۴۵ء میں مجھے ی نے بحیثیت صائم دارالعلوم دعوت دی اور مجلس شوریٰ نے اس دعوت کو بکال خوشی ببول کرتے ہوئے مجھے بطور نمائندہ دارالعلوم افغانستان بھیجا، تاکہ میں امیر نادر شاہ کی وفا بر تعریت اور موجودہ پادشاہ افغانستان امیرناٹا برشاہ کی تخت شیخی پر تدبیت پیش کروں۔ افغانستان میں آپ کا علمی اور سیاسی وقار قوم اور حکومت یکساں طور پر منقص تھی۔ مولانا ابوالکام مرحوم کا جذبہ اور فیصلہ یہ تھا کہ ہندوستان کے آزادوں ہوتے ہی وہ مولانا منصور کو ہندوستان لا گئی گے لیکن آزادی ہندوستان سے چند ماہ پیش مددوہ کا وصال ہو گی۔ رحمہ اللہ

(۲۸) حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب آرڈی

آپ بوری علاقہ میں خاص شہرت رکھتے تھے۔ مگر اخیر میں ان پر عدم تقدير کا غلبہ ہو گیا اور جماعت دیوبند سے انساب کا رشتہ کمزور ہو گیا۔

(۲۹) حضرت مولانا شیب الرحمن صاحب عثمانی

آپ حضرت شیخ الہند کے معتمد علیہ تلامذہ میں سے تھے۔ علیہ محتشمی ذہانت^۹ ذکاوات کے حامل تھے علم مستحضر تھا اور بڑا منقطع علم تھا۔ علوم عقلیہ سے خاص ذوق تھا۔ مطلق تلاسہ اور علم کلام میں غیر معمولی و سترس تھی۔ حکمت قاسمیہ کے بہترین شارح تھے۔ دارالعلوم سے فرازانت کے بعد مسجد فتح پوری دہلی کے مدرسہ میں صدر مدرس کی حیثیت سے تدریس علوم میں مشغول ہوئے۔ پھر دارالعلوم میں بحیثیت مدرس بلائے گئے۔ اونچے طبقے کے اساتذہ میں آپ کا شمار تھا۔ پھر وہ بھیل میں ایک عصر میں شیخ التفسیر کی حیثیت سے کام کیا۔ اور اپنے آخری دور میں چند سال دارالعلوم کے صدر تھم بھی رہے۔ صحیح مسلم کی بہترین شرح منکلماں انداز میں لکھی اور حکمت قاسمیہ کو اس میں نمایاں رکھا۔ حضرت شیخ الہند کے تفسیری فوائد جو حضرت نے ترجمہ کے ساتھ شروع فرائے تھے آپ نے پائی تکمیل کو پہنچا گئے۔ پے مثال خطیب تھے اور خطبات

مشاہیر دارالعلوم اور جو خدمات انجام دیں

بین قاسمی علوم بحثت بیان کرتے تھے۔ تحریر و تقریب میں ان ہی علوم کا غلبہ تھا۔ سیکھی شعور اور پچے درجہ کا تھا۔ ملکی معاملات کے اثار چڑھاڑ کا پورا نقشہ ڈبن کے سامنے رہتا تھا۔ اور اس بارے میں پچی تلی رائے قائم کرتے تھے۔ حضرت شیخ الہندؒ کی تحریک ۱۹۳۶ء روپاں میں شرکیب رہے۔ جمیعتہ العلماء ہند کے کاموں میں سرگرمی سے حصہ لیا۔ آخر پر مسلم بیگ کی تحریک میں شامل ہو گئے اور جمیعتہ علماء اسلام کی بنیاد ڈالی۔ تقسیم ملک کے بعد آپ نے پاکستان پہنچ کر ترک وطن کر دیا۔ پاکستانی پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے پاک میں اسلامی قانون کے نفاذ کی جدوجہد میں نمایاں حصہ لیا۔ قرارداد مقاصد پاس کر لئے وہاں کی قوم نے آپ کو شیخ الاسلام کے لقب سے یاد کیا۔ ایک سفر کے دوران میں ہبہاں پوری میں وفات پائی اور کراچی میں دفن ہوئے۔ پورا ملک اور حکومت سوگوار ہوئی اور عصہ دراز تک آپ کا نعم منیا جاتا رہا۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعة

(۲۰) حضرت مولانا سید فخر الدین احمد صاحب ملتی نظم

سابق صدر المدرسین مدرسہ شاہی مسجد مزادآباد موجودہ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند۔ آپ اونچے درج کے محدث ہیں۔ جمیعتہ العلماء ہند اور کاظمیوں کی تحریکوں میں براہ راست بیٹھے رہے اور کٹی پارچیل گئے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد صاحبؒ کی وفات کے بعد آپ ہی کو جمیعتہ العلماء ہند کا صدر منتخب کیا گیا۔ ۱۳۶۵ھ سے ۱۳۸۲ھ تک ۱۹۴۳ء سے ۱۹۶۰ء تک دارالعلوم میں آپ سے ۱۴۱۱ طلبہ نے بخاری شریف پڑھی۔

(۲۱) حضرت مولانا فضل ریتی صاحب؟

آپ حضرت شیخ الہندؒ کے شاگردوں میں ایک جوشیدے عالم تھے۔ آپ حکومت افغانستان کی ہمیئت تیزی کے رکن کی حیثیت سے بہت ممتاز شخصیت کے مالک ہیں۔

(۲۲) حضرت مولانا محمد ابراسیم صاحب بلیاوی مدظلہ

آپ دارالعلوم دیوبند کے موجودہ صدر المدرسین ہیں اور حضرت شیخ الہندؒ کے خصوص تلامذہ میں سے ہیں۔ اس وقت معقولات میں خصوصاً اور جمیع علوم میں عموماً

لے انکوس کر اس اشاعت کے وقت مولانا بھی مر جنم ہو چکے ہیں۔ ۱۴۱۲ء شر

مشاہیر دارالعلوم اور جو خدمات انجام دیں

ز دستیم کئے جانتے ہیں۔ موجودہ اساتذہ دارالعلوم دیوبند میں دینیہ اکریٹیت کے ساتھ آپ ہی کے شاگرد ہیں۔ درس حدیث میں آپ خاص امتیاز رکھتے ہیں۔ مختلف مدارس دینیہ، فتحپوری دہلی، مدرسہ امدادیہ در بھنگڑ، مدرسہ باث ہزاری چاٹ گام وغیرہ میں صدارت تدریس کے عہدہ پر فائز رہے۔ آپ کے اساتذہ نے بالآخر آپ کو دارالعلوم کے لئے انتخاب فرمایا۔ اور بہت اونچے طبقہ کے اساتذہ میں شمار ہوتا رہا۔ ۱۳۸۲ھ میں حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدفن رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ دارالعلوم کے صدر مدرس، ناظم تعلیمات اور مجلس شوریٰ کے ممبر بنائے گئے۔ آپ کے زمانہ صدر مدتری ہیں ۱۳۸۲ھ سے ۱۳۸۵ھ تک ۱۴۱۱ طلبہ دوسرہ حدیث پڑھ کر فارغ التحصیل ہو گئے۔

(۲۳) حضرت مولانا ماجد علی صاحب؟

آپ مدرسہ عالیہ کلکتہ میں پرنسپل رہے۔ اور اس نواحی کے مشاہیر علم و فضل میں سے تھے۔

(۲۴) حضرت مولانا شاعر اللہ صاحب امرتسری

آپ بھی حضرت شیخ الہندؒ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ حدیث و قرآن پڑھی اور وسیع نظر رکھتے تھے۔ اریوں اور قادیانیوں کا ڈاٹ کر مقابلہ کیا اور متعدد مناظرے کئے۔ آپ کا لقب شیر پنجاب تھا۔ میلان عدم تقليید کی طرف تھا۔ آزادی ملک کی تحریک میں جمیعتہ العلماء ہند کے ساتھ رہے۔ اور باہو اخلاق اخلاق ملک کے اکابر و اسلاف دیوبند کے بہت زیادہ گرویدہ اور اخلاقی طور پر ان سے غیر معمولی انداز سے وال است رہے۔ اس احقر سے بہت زیادہ مانوس تھے۔ جیشہ ملاقات کے وقت مصافحہ اور معافیت ہی پر قناعت نہ کرتے تھے بلکہ پیشانی بھی چومنتے تھے اور بعض اوقات انکھوں میں آنسو بھرا تے تھے۔

(۲۵) حضرت مولانا مناظر احسن صاحب گیسلانی

آپ بھی مشاہیر فضلاں دیوبند میں سے تھے، صاحب طرز مصنف انیز ذہن و

مشائہردارالعلوم اور جو خدمات انعام دیں

ذکا اور طباعی میں منفرد تھے تعلیم علوم سے فراغت کے بعد دارالعلوم کے آرگن رسالہ "القاسم" کے ایڈٹر اور رئیس التحریر منتخب کئے گئے اور عرصہ داڑتک قلمی خدمات سے ہندوستان کے علمی حلقوں کو مستفید کرتے رہے۔ اس کے بعد حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش پر جامعہ عثمانیہ حیدر آباد (دکن) کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ اس دوران میں بہت سی مفید اور علمی تصانیف آپ کے قلم سے نکلنی شروع ہوئیں۔ "سوانح ابوذر غفاری" اور "مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت" دوغیرے کائنات روحاںی مخصوص اور مشہور تصانیف ہیں۔ تصانیف اور علمی مقالات کا عدد بہت کافی ہے جو مقبول خواص و عوام ہے۔ آخر میں احقر کی فرمائش پر آپ نے "سوانح قاسمی" تین جلدیں میں مرتب کی جو آپ کی تصانیف میں ایک شاہکار تصنیف ہے۔ اس کے باوجود میں جب احقر نے اُن سے فرمائش کی تو بہت خوشی اور اُنگ سے اُسے قبول کرتے ہوئے لکھا کہ میری علمی زندگی کی ابتداء "القاسم" ہی سے ہوئی تھی اور شاید انتہا بھی "القاسم" (یعنی حضرت نانو توی) ہی پر ہوگی۔ چنانچہ یہی ہوا کہ سوانح قاسمی کی چونچی جلد آپ نے شروع کی۔ پانچ سو سخے لکھنے پائے تھے کہ عمر فانی نے جواب دیدیا اور "القاسم" پر انتہا ہو گئی۔ تقریباً خطابات نہایت عالماء۔ اویسا نہ اور پر جوش ہوتی تھی۔ دیقیر سخ اور نکتہ رس علماء میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ ہندوستان کے مشائہر علماء میں آپ کی ممتازیت مانی جاتی تھی ۱۲۴۵ھ میں وفات پائی۔ رحمۃ اللہ رحمۃ واسعة

(۳۶) حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کیمپوری مدظلہ

آپ بھی حضرت شیخ الہندؒ کے تلامذہ میں سے ہیں۔ حدیث سے فاس لگاؤ تھا۔ مدرسہ مقاہم دارالعلوم سہارپور میں عرصہ تک صدر مدرس رہے اور علوم و فنون کا درس دیتے رہے۔ آج کل اپنے طبلہ کیمپور میں قائد نشین ہیں۔

(۳۷) حضرت مولانا سید الرحمن صاحب کابلی

آپ مشہور سیاسی ایڈٹر تھے۔ جنہوں نے حضرت شیخ الہندؒ کی تحریک میں بہت

مشائہردارالعلوم اور جو خدمات انعام دیں

نایاں کام کئے۔ دارالعلوم سے فارغ ہونے کے بعد عرصہ تک دہلی میں قیام کیا۔ پھر اپنے وطن کا بیان جاکر وہیں مقیم ہو گئے۔ میں جب ۱۲۵۰ھ میں افغانستان حاضر ہوا تھا تو قیمتی حیات تھے اور میر سے ساتھ نیز معمولی محبت اور ادب و احترام بلکہ نیازمندی سے پیش آتے تھے۔ حالانکہ میں ان کا ایک حصیر خورد تھا۔ آپ زبردست مجاہد تھے۔ اور جہاد کا بھوش سینہ میں اپنا بیوار رکھتے تھے۔ ہٹلر نے جب یورپ پر جملہ کیا تو میں اس وقت کا بابل ہی میں تھا اور تفاق سے مولانا ہی کے مکان پر موجود تھا۔ جملہ کی خبر سننے ہی جوش مسرب میں روپٹے۔ بیجے میں گر گئے اور فرمایا کہ "خداوند ایسا شکر ہے کہ بھیڑیوں میں باہم چنگ شروع ہو گئی جس سے انسانوں کے بیچ جانے کی توقع ہو گئی"۔

(۳۸) حضرت مولانا وصی اللہ صاحب مدظلہ

آپ دارالعلوم دیوبند کے ممتاز علماء اور شیوخ میں سے ہیں جیکم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ کے اجل خلفاء میں سے ہیں۔ آپ کا طرز اصلاح و تہذیب نفس ہو بہو حضرت تھانویؒ کی طرح ہے۔ پہلے ضلع اعظم گڈھ میں پھر شہر گور کھپور میں اور اس وقت ال آباد شہر میں آپ نے اپنی خانقاہیں قائم فرمائی ہیں۔ بڑے بڑے ذی علم اور صاحب جاہ و شرود حضرت کی اصلاح آپ کے ذریعہ سے ہوئی اور ہر ہوئی بے۔ بزرگوں بندگاں خدا کو روحاںی فیض پہنچ رہا ہے۔ اور یہ خطہ آپ کے وجود باوجود سے روحانیت سے بہرہ اندوز ہو رہا ہے۔

(۳۹) حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ، ممتاز فضلدار دیوبند میں سے ہیں۔ اور ابتدا طالب علمی سے انتہا تک احقر محمد طیب، مفتی دارالعلوم دیوبند کے رفقہ تعلیم میں سے ہیں۔ قوی الاستعداد ہیں اور استحضار علم کے ساتھ معرفت، فقہ اور ادب ملے انسوس کر اب اس اشاعت کے وقت یہ بزرگ درجوم ہو چکے ہیں۔ ناشر

مشاہیر دارالعلوم

ادر

جو خدمات انجام دیں

میں خاص امتیاز رکھتے ہیں۔ فرازت تعلیم کے بعد دارالعلوم کے درجہ ابتدائی کے مدرس ہوئے اور تعلیمی ترقی کی مندرجہ طبقہ کے طبقہ وسطیٰ اور پھر طبقہ اعلیٰ کے مدرسین میں شمار کئے گئے۔ فقیہ مناسبت اور فخر کے خاص ذوق کی بنا پر حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم دارالعلوم کے حلقة افراطیں شامل ہوئے اور ایک ممتاز فتویٰ نویں ثابت ہوئے، بالآخر حضرت مددوح کی وفات کے بعد دارالعلوم کے عہدہ افراطی پر بحیثیت مفتی دارالعلوم آپ ہی کا منتخب کیا گیا۔ حضرت شیخ الہندؒ کے اسارت مالٹا سے رہا ہو کر جانے کے بعد آپ حضرت شیخ الہندؒ سے بیعت ہوئے اور حضرت کے وصال کے بعد احرقر کی معیت میں حضرت اقدس مولانا تھانویؒ کی طرف رجوع کیا اور حضرت مرشد تھانویؒ سے خلافت حاصل کی۔ اور پھر تعلیم نما ہر کے ساتھ تعلیم باطن میں مشغول ہوئے۔ الحمد للہ مولانا کے متولیین بحیرت میں اور مخالوق کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تصنیف و تالیف کا ذوق ابتداء ہی سے تھا۔ فقہ و حدیث اور مناظر میں نہایت مفید تصنیف کا ایک خیر ہے جو آپ کے قلم سے نکلا اور خواص و عوام کے لئے مفید ثابت ہو رہا ہے۔ شعرو شاعری کا ذوق بھی زمانہ کا لاسب علمی سے ہی تھا عربی، فارسی اور اردو میں نہایت عمدہ قصائد، مراثی اور واقعاتی نظمیں کہیں جن کا مجموعہ شائع بھی ہو چکا ہے۔ تقیم ملک کے بعد آپ نے پاکستانی قومیت اختیار فرمائی اور آج وہ کے ممتاز مفتیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ گورنمنٹ پاکستان نے اسلامی قانون کی تدوین کے لئے علام کی جو کمیٹی بنائی آپ اس کے رکن رکن رہے۔ آپ نے شرافی (کراچی) میں ایک بڑے دارالعلوم کی بنیاد ڈالی جو آج مرکزی حیثیت کی ایک ممتاز تعلیم گاہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ آپ فضلاء دارالعلوم دیوبند میں ایک ہمہ سبھی امتیاز رکھتے ہیں۔

(۲۰) حضرت مولانا محمد طیب صاحب مدظلہ راز عزیز احمد قاسمی ناظم شعبہ تخلیم ابنا قدم و ناظم شعبہ تبلیغ دارالعلوم دیوبند۔

آپ حضرت بانی دارالعلوم قدس سرہ کے پوتے اور حضرت مولانا حافظ

مشائیر دارالعلوم

اور

جو خدمات انجام دیں

محمد احمد صاحب ہم مقام خامس دارالعلوم کے صاحبزادے ہیں۔ آپ حضرت علامہ سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مخصوص تلامذہ میں سے ہیں۔ آپ نے ۱۹۳۱ء میں علوم درسی سے فراغت حاصل کی۔ اور دارالعلوم میں حبستہ اللہ درس و تدریس کا آغاز کیا۔ اور درس نظامی کی مختلف علوم و فنون کی کتابیں پڑھائیں ۱۹۴۲ء میں دارالعلوم کے نائب مہتمم رہے اور ۱۹۴۴ء میں اپنک کہ تک کہ ۱۹۴۶ء میں آپ ہی دارالعلوم کے مہتمم ہیں۔ اس وقت پورے ہندوستان میں بہترین خطیب تسلیم کئے جاتے ہیں۔ ہندوستان کے ہر خطہ میں پہنچ کر تقریر و خطابات کے فریضہ اسلامی مقام کی اشاعت اور مسلم دارالعلوم کی ترویج میں نمایاں حصہ لیا۔ تقریباً ایک سو سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں۔ ایک مستقل ادارہ آپ کی تصنیف کو شائع کر رہا ہے جو ملک میں مقبول ہیں۔ شعر و سخن میں بھی اپنے بزرگوں کی طرح شعر انداز میں دخل رکھتے ہیں۔ آپ کی متعدد نظمیں، مثنویاں اور قصائد میں جو رسالہ دارالعلوم اور "الذاسم" میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ بعض بیانی نظمیں کتابی صورت میں بھی مستقل اشارع ہوئی ہیں۔ آپ ہندوستان کے متعدد علمی اور تعلیمی اداروں کے ممبر اور سرپرست ہیں اور متعدد مدارس کے ہانی ہیں۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی اکنیکیوں کو نسل کے ممبر ہیں اور عصہ دار ایک سنتی سنطل وقف بورڈ کے ممبر رہے دارالعلوم کے ذمہ داروں میں سے آپ پہلے شخص میں جنزوں نے پروردی ہاں کے متعدد سفر کئے۔ افغانستان۔ برباد۔ عدن۔ ججاز۔ مصر۔ اردن۔ لبنان ساؤتھ افریقہ۔ روڈریشا۔ کینیا۔ مانگانیزا۔ زنجبار۔ میگاسکر۔ جوش۔ ماریش۔ ریونیون پاکستان وغیرہ میں جا کر دارالعلوم کا تعارف کرایا۔ آپ کے زمانہ میں دارالعلوم نے بغیر معمولی ترقی کی۔ تعلیمی اور تعمیری سلسلہ کافی بڑھا۔ کاموں اور شعبوں میں اضافہ ہوا۔ اسناد، طلبہ، اور عملہ کا عدد بہت بڑھ گیا۔ آمدی کی رفتار غیر معمولی طور پر ترقی پذیر ہوئی جس کی تفصیل آنے والے نقشوں سے معلوم ہو گی۔ شعبوں نے مکملوں کی صورت اختیار کر لی جیسا کہ آگے متعلق نقشہ جات سے تفصیلات معلوم ہوں گی۔ مددوح حضرت شیخ الہندؒ

مشاہیر دارالعلوم اور خدمات جو انجام دیں

یہ شیخ التفسیر کی حیثیت سے بلانے گئے اور کتب تفسیر کے ساتھ و درہ کی کتب حدیث بالخصوص ابو داؤد شریف اکثر و بیشتر آپ ہی کے درس میں رہتی تھی۔ ابتداء مدت اور عظیت سنت کا خاص شغف ہے علم شرعیہ اور روحانیہ باطلہ میں بہت سی کتب کے بہترین مصنفات ہیں۔ محققانہ انداز سے بحث کرتے ہیں جس میں علمی مواد کا فی ہوتا ہے علمی نصانیف کے سلسلہ میں مشکوٰۃ المصاہیع کی شرح (التعلیق الصیبح) آپ کا تصانیفی شاہکار ہے جو پانچ جلدیوں میں ہے۔ مذاکرہ اسلامیہ کا سفر کئے ہوئے ہیں اور بیردات جا کر آپ نے خود ہی شرح مشکوٰۃ طبع کرائی۔ سیرۃ المصطفیٰ کے نام سے کئی جلدیوں میں محققانہ بیہت تکھی جس میں آزاد خیال مصنفوں پر علمی انداز سے تنقید کی ہے۔ اور ان کے بہت سے شکوٰک و شبہات کے مکتوب جوابات دیتے ہیں۔ عربی ادب میں خاص جہاد ہے عربی اشعار بر جنگی سے کہتے ہیں۔ فارسی میں بھی آپ کی نظمیں ہیں۔ تقیم علک کے بعد آپ نے پاکستانی قومیت اختیار کر لی اور آج جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث ہیں۔ تقریباً ہر جمعہ کو آپ کے وعظ کی مجلس ہوتی ہے جس میں ہزاروں کا اجتماع ہوتا ہے جن کوئی میں رجیم انداز کے ساتھ یہ طولی رکھتے ہیں اور سچی بات بلا خوت لومہ لائم برلا کہتے ہیں۔ تقویٰ اور رحیمۃ اللہ آپ پر نیایاں نظر آتا ہے۔ محنت از مشاہیر علم و فضل میں سے ہیں۔

(۲۳) حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی مظلہ

آپ دارالعلوم دیوبند کے ممتاز فضلا میں سے ہیں۔ متعدد کتب میں احرار کے ہم سماج سے علمی استعداد و شروع سے معمبوط تھی۔ اصل وطن ضلع ہزارہ (پاکستان) ہے۔ صاف گو خطیب ہیں۔ آپ کی صلاحیتوں کے پیش نظر آپ کو جمیعت علماء اسلام پاکستان کا ناظم فتحب کیا گیا ہے۔ موصوف کی علمی شہرت کی بناء پر مصرتے آپ کو بطور نمائندہ جمیعت علماء اسلام پاکستان و عورت وی۔ اور آپ نے دہان کی علمی مؤتمر میں علماء عالم کو خطاب فرمایا۔ آپ کا شمار وہاں کے مشاہیر میں ہے۔

مشاہیر دارالعلوم اور جو خدمات انجام دیں

سے بیعت اور حضرت خطا نبیؐ کے خلیفہ مجاز ہیں۔ آپ کا بیعت، دارالشادہ اسلامیہ بیرون ہند میں پھیلا ہوا ہے۔ اہتمام کے طویل الذیل کاموں کے باد جو درس و تدریس کا مشغلہ آپ کا کبھی ترک نہیں ہوا۔ حدیث و تفسیر اور فتن حفاظت و اسرار کی کتابیں جیسے جمیع اللہ البالغہ وغیرہ اکثر زیر تدریس رہتی ہیں دیوبند میں آپ کی ایک مستقل مجلس مذکورہ قائم ہے جس میں طلبہ اور شہر کے لوگ جمع ہو کر علمی استفادہ کرتے ہیں۔

(۲۴) حضرت مولانا عبد الغفور صاحب مہاجر مدینی مظلہ

آپ دارالعلوم کے فیض یافتہ اور آخری در طالب علمی میں خصوصیت کے ساتھ حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب سے متینہ ہیں۔ نقشبندی سلسلہ کے ممتاز مشائخ میں سے ہیں۔ اصل سے صوبہ سرحد کے باشندے ہیں لیکن عرصہ دراز سے مدینہ طیبہ میں مہاجر کی حیثیت سے مقیم ہیں اور حجازی قومیت اختیار فرما ہے آپ پر غلبہ باطنی ارشاد و بہایت کا ہے۔ سرحدی و پاکستانی لوگ بحیرت آپ کے سلسلہ بیعت میں داخل ہیں۔ مدینہ منورہ میں آپ کا مقام سکونت ایک مستقل خانقاہ کی حیثیت رکھتا ہے جس میں ہر وقت طالب علموں اور مستفیدین کا جمع لگا رہتا ہے۔ اس وقت حجاز میں آپ ممتاز مشائخ میں شمار ہوتے ہیں۔

(۲۵) حضرت مولانا محمد ادريس صاحب کاندھلوی مظلہ

آپ دارالعلوم کے ممتاز فضلا و علماء میں سے ہیں۔ حضرت علامہ سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری قدس سرہ کے خصوص اور معتمد علیہ تلامذہ میں سے ہیں۔ احرار کے خاص تعلیمی رفیق اور دورہ حدیث کے ساتھی ہیں۔ اوپر سے ہم نسب بھی ہیں۔ حدیث فقدہ اور تفسیر میں امتیازی ہمارت کے حامل ہیں۔ قوت حافظہ امتیازی ہے۔ علم اور کتب کا اسخت پار تام ہے۔ اونچے درجہ کے ارباب تدریس میں سے ہیں۔ علوم سے فراغت کے بعد بعض مدارس میں سلسلہ تدریس میں سے مشکرہ کر بالآخر دارالعلوم دیوبند لے انسوس کے اس اشاعت کے وقت یہ بزرگ بھی مر جنم ہو چکے ہیں۔ ناشر

ماہر دارالعلوم اور خدمات جو انجام دیں(۳۴) حضرت مولانا بدر عالم صاحب میر بھی مظلہ

اپ بھی دارالعلوم دیوبند کے متاز فضلاں میں سے ہیں۔ حضرت علامہ سید محمد انور شاہ صاحب قدس سرہ کے تلامذہ میں سے ہیں۔ دریافت سے فراغت کے بعد دارالعلوم کے درس و نذر میں کے سلسلے میں لئے گئے۔ پھر دارالافتخار میں اپنے والد بزرگوار کی زیر تربیت افتخار تو سی کی مشق کی۔ اور دارالافتخار میں بحیثیت نائب مفتی کام شروع کیا۔ اور فتویٰ نویسی میں ہبہارت حاصل کی۔ ایک عرصہ تک حضرت علامہ سید محمد انور شاہ صاحبؒ کی معیت میں جامعہ اسلامیہ ڈیجیل میں مدرس کی حیثیت سے کام کیا۔ پھر ایک عرصہ دراز تک کلکتہ میں مقیم رہے اور وہاں کے لوگوں کو علم اور دین سے منفید کیا اس کے بعد دہلی اگر ادارہ ندوۃ الصنفین قائم کیا جو وقت کا ایک بہترین معیاری ادارہ ہے جس نے اسلامی علوم و فنون کی بہت سی قابل قدر تصانیعٹ ملک کے سامنے پیش کیں۔ آپ اس وقت دہلی کے ماہری علم و فضل میں شمار کئے جاتے ہیں۔ بہت سے علمی اور دینی اداروں کے ممبر ہیں اور مرکزی رچ کمیٹی کے صدر ہیں، گورنمنٹ بھی اپ کی بات کا اثر لیتی ہے۔ قومی کاموں میں آپ کا خاص حصہ ہے تحریک آزادی ہند لے سپاہیوں میں سے ہیں، جمیعتہ علماء ہند کے کاموں میں حضرت مولانا حفظ الرحمٰن صاحبؒ کے درست راست رہے ہیں اور ان کے وصال کے بعد جمیعتہ علماء ہند کے صدر عامل کے ہدود پر فائز ہیں۔ دارالعلوم کی مجلس شوریٰ کے مؤثر ممبروں میں سے ہیں۔ جری اور شیردل مقرر ہیں۔ سروفی ممالک میں بھی آپ کی آمد و رفت رہی ہے۔ حال ہی میں آپ نہروں کے بعض دینی اداروں کی دعوت پر نہروں کا سفر کیا تھا۔ جمیعی حیثیت سے دارالعلوم کے متاز فضلاں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔

(۳۵) حضرت مولانا حفظ الرحمٰن صاحب سیجوہار وی

اپ حضرت علامہ سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ صدر مدرس دارالعلوم دیوبند کے مخصوص تلامذہ میں سے تھے، اعلیٰ ترین علمی استعداد کے مالک تھا۔ درجہ کے ذکر اور طباع فضلاں میں سے تھے، ابتداءً دارالعلوم میں مدرس کی حیثیت سے

(۳۶) حضرت مولانا مفتی علیق الرحمٰن صاحب عثمانی مظلہ

اپ حضرت مفتی علیق الرحمٰن صاحب عثمانی مظلہ میں شیخ مفتی عزیز الرحمٰن صاحب دیوبندی قدس سرہ لئے انوس کریم بزرگ بھی اس وقت اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ ناشر:

مشائیر دارالعلوم

مہنت علوم و فنون کی کتابیں پڑھائیں پھر دارالعلوم کی طرف سے مدرس بھیجے گئے اور وہاں درس و تدریس کا سلسلہ جاری کیا پھر جامعہ اسلامیہ ڈا جیل میں درس رہے۔ نصیحت و تایف کی مخصوص صلاحیتیں رکھتے تھے۔ متعدد اعلیٰ ترین کتابوں کے مصنف تھے ہندوستان کے بڑے بلند پایہ مقرر اور خطیب تھے۔ بہترین سیاستدان تھے۔ ندوہ المصنفین کے مخصوص کارپروازوں میں سے تھے جمیعت علماء ہند اور کانگریس کے صفت اول کے لیڈروں میں سے تھے، کسی بار جیل گئے، طولی عرصہ تک جمیعت علماء ہند کے ناظم اعلیٰ رہے ۱۹۲۴ء کے انقلابی ہنگاموں میں اپنی جان پر کھیل کر ہزاروں کی جانیں بچائیں۔ پارلیمنٹ کے بے لوٹ اور نذر عمر بر تھے، فرقہ پرست بھی۔ ان کا لوہا مانتے تھے۔ گورنمنٹ بھی انہیں مانتی تھی اور ان کے اڑات قبول کرتی تھی۔ عزیز ان کی شخصیت ایک جامع اور مؤثر شخصیت تھی جس کا ہندوستان کے تمام علمی اور سیاسی طبقات پر اثر تھا۔ دارالعلوم کی مجلس شوریٰ کے ممبر اور اس کے کاموں میں خیل تھے۔

(۲۸) حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب دیوبندی مذکولہ

آپ دارالعلوم دیوبند کے ہونہار فاضل اور حضرت علامہ سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری قدس سرہ کے تلمذہ میں سے ہیں علوم درسیہ سے فرازت کے بعد درس شاہی مراد آباد میں درس اور مفتی کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ جمیعت علماء ہند کے ذمہ دار کارکنوں میں سے ہیں۔ حضرت مولانا سید حبیب الرحمن احمد صاحب مدینی قدس سرہ کے حکم پر جمیعت علماء ہند کے ناظم بنے جحضرت مولانا حفظ الرحل صاحبؒ کی وفات کے بعد ایک سال تک ناظم اعلیٰ جمیعت علماء ہند کے عہدہ پر فائز رہے جمیعت اور کانگریس کے بڑے ملکیں سپاہی اور سمعت اول کے لیڈروں میں سے ہیں۔ کسی بار جیل گئے۔ متعدد مفید کتابوں کے مصنف ہیں۔ «علماء ہند کا شاندار راستی» کسی جلد میں اور تاریخ اسلام آپ کی شاہکار تصنیف ہیں۔ بچوں کی اسلامی تعلیم سے بہت زیادہ شغف ہے ہر چنانچہ دینی تعلیم کے متعدد وسائل تصنیف فرمائے جو بہت زیادہ مقبول

اسماں گرامی مشائیر دارالعلوم اور جو خدمات انجام دیں

ہر چند تعلیم کے ہر شعبہ میں اور ہر مضمون میں اسلامی رنگ دیکھنے کی ترپ ہے اور اس ترپ کا مظاہرہ و تصنیف کردہ کتابوں اور چارٹوں سے ہوتا ہے۔ دارالعلوم کی مجلس شوریٰ کے کارگذاہ ممبر ہیں مجموعی حیثیت سے علم و عمل میں دستگاہ اور صلاح و تقویٰ ملکی ہے۔

(۲۸) حضرت مولانا سید احمد صاحب اکبر آبادی مذکولہ

آپ نے دارالعلوم دیوبند سے فرازت کے بعد ایم۔ اے کیا۔ ولی یونیورسٹی میں پروفیسر رہے۔ پھر درسہ عالیہ کالکتہ کے پرنسپل رہے۔ آج کل علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں سنی و دینیات کے شعبہ کے انچارج ہیں۔ رسالہ برہان کے ایڈیٹر ہیں۔ آپ کی قابلیت اپنی جماعت میں مسلم ہے۔ کنٹا، انگلینڈ وغیرہ میں آپ کے لکچر ہمہت مقبول ہوئے۔ متعدد مفید کتابوں کے مصنف ہیں۔ دارالعلوم کی مجلس شوریٰ کے ممبر اور ادارہ مجلس عمار القرآن اکادمی قرآن عظیم کی مجلس شوریٰ کے رکن رکن ہیں۔ آپ بھی حضرت علامہ سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری کے تلمذہ میں سے ہیں۔ اسوقت آپ کی شخصیت ایک بین الاقوامی حیثیت رکھتی ہے، مصر۔ شام۔ حجاز۔ کویت۔ بنان۔ کنٹا اور انگلستان وغیرہ کے آپ نے قومی طور پر سفر کئے اور اپنی قابلیت سے ادبی اور علمی حلقوں میں لمبارز ہے۔ مصر کی عالمی موتمریں احقر کی معیت میں آپ کا خصوصی سفر ہوا۔ اور عالمی موتمریں آپ کے خطاب کو سُنا گیا۔

(۲۹) حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری مذکولہ

آپ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیریؒ کے ماہر ناز شاگردوں میں سے ہیں۔ حضرت شاہ صاحبؒ کے علوم کے این ہیں جن کی ذات سے حضرت کے علم کی بہت زیادہ اشاعت ہوئی۔ علمی دنیا میں آپ کا ایک خاص درجہ اور مقام ہے۔ ادبیت اور عربی و فارسی کی ادبی قوت بے مثال ہے۔ عربی زبان میں بے نکان اربست تکلف بولتے ہیں۔ جس میں جنگل اور روانی ہوتی ہے۔ عربی تحریر اور اشتپرواڑی

مشائیر دارالعلوم ۱۹ جو خدمات انجام دیں

میں ایک بے نظیر صاحبِ طرز ہیں۔ متعدد اعلیٰ کتب کے مصنف ہیں۔ تربیتی شریف کی نہایت ہی جامع اور بلیغ شرح تکمیلی ہے جس میں محدثانہ اور فقیہانہ امتاز سے کلام کیا گیا ہے۔ اس کی عربیت اور طرزِ ادبی معاشری ہے۔ اور ذخیرہ معلومات بہت کافی ہے۔ اس سے تحریر اور تفہیم و فوتوں نیایاں ہیں۔ آپ نے مصر، بیروت، شام، جماز، عراق اور افغانستان وغیرہ کے سفر کئے۔ مصر میں علماء دیوبند کا سب سے پہلے آپ نے تعارف کرایا اور دہاں کے اخبارات وسائل نے آپ کے بلیغ مصنفوں نہایت شوق و ذوق سے شائع کئے جن سے مصر و شام میں آپ کی علمیت کا چھر جاہی نہیں ہوا بلکہ دھاک بیٹھ گئی اور معیاری علماء کی مجلسوں میں آپ کو نہایت توقیر اور احترام کے ساتھ طالب کیا جانے لگا۔ علامہ طنطاوی مصري صاحب تفسیر طنطاوی پر آپ نے مصنف کے درود و نقد و تبصرہ کیا جس سے خود مصنف متأثر ہوئے اور بہت سی تنقیدات کو انصاف پسندی کے ساتھ انہوں نے قبول کیا اور "یا استاذ" کے الفاظ سے خطاب کیا۔ عربی میں بھی برجستگی اور یاد طولی حاصل ہے۔ مؤتمر عالم اسلامی قاہرہ مصراویں ریس و ند پاکستان کی حیثیت سے آپ کو بلوایا گیا اور وہاں آپ نے مددکلہ دیوبند کے مطابق مسائل پر نقد و تبصرہ فرمایا۔ بعض مسائل کے متعلق آپ کے مقالہ کو اہمیت دی گئی۔ اور کتابی صورت میں شائع کیا گیا۔ آپ نے کراچی میں ایک مثالی دارالعلوم قائم فرمایا اور اپنے اسلاف کے نقش قدم پر نیوٹاؤن کی عظیم مسجد میں ابتداء زید و فنادع اور بے سروسامانی کے ساتھ تعلیم وینی شروع کر دی۔ فقر و فاقہ تک کو برداشت کیا۔ مگر کار تعلیم جاری رکھا۔ بالآخر سنت الہیہ کے مطابق آخر میں لوگوں کا رجوع ہوا۔ اور آج یہ دارالعلوم کئی لاکھ کی عمارت ہے جس میں پندرہ میں کے قریب اساتذہ کا تعلیم تدریس ہے۔ مشغول ہیں۔ حدیث و فقہ میں محدود کی استعداد و لیاقت ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ جسے ان کے ہم عصری بطور واعتراف تسلیم کرتے ہیں۔ آپ فضلاً دیوبند میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ اور ملک میں معروف ہیں۔ صوبہ سرحد (مغربی پاکستان) آپ کا وطن ہے۔

مشائیر دارالعلوم

۱۹

رسوت بحیثیت ناظم اعلیٰ دارالعلوم نیوٹاؤن کراچی میں قیام فراہیں۔

(۵) حضرت مولانا حامد الانصاری غازی مظلوم

آپ حضرت مولانا منصور انصاری رفقی سیاست حضرت شیخ الحنفی کے صاحب ہے اور حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب شیری کے تلمذہ میں سے ہیں۔ اور حضرت دارالعلوم قدس سرہ کے نواسوں میں سے ہیں۔ علمی ذوق سے طبعی مناسبت رکھتے اور دو ادب کے صاحب طرز ادیب ہیں۔ مشہور اخبار "مدينه" بجنور کے بوسہ بارس ہے۔ پھر بیسی میں اپنا مستقل اخبار "جمهوریت" جاری کیا۔ آپ کے سیاسی مقالات رقت کی لگاہ سے دیکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ قادر الکلام شاعر بھی ہیں۔ صوبہ بیسی کی پیدا العلام کے صدر ہیں۔ سیاست پر کافی نظر اور سیاسی نشیبی فراز ہیں جہارت و اقت رکھتے ہیں۔ "اسلام کا نظام حکومت" آپ کی معرکتہ الاراث تصنیف ہے جو مقبول دارالعلوم کی مجلس شوریٰ کے ممبر اور ادارہ مجلس معارف القرآن (اکادمی قرآن ہم) کی مجلس کے رکن ہیں۔

(۶) حضرت مولانا مفتی محمد محمود صاحب بیٹے ظلمہ، ایم۔ پی۔ (پاکستان)

آپ کی شخصیت علیٰ حلقوں میں بہت زیادہ معروف ہے۔ اس وقت پاکستان پارلیمنٹ کے ممبر ہیں۔ حق گوئی میں بے باک ہیں۔ فقہی اور حدیثی استعداد کے ساتھ میں معلومات پر کافی عبور رکھتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں آپ کی تقریبی نشری اور عصری کتابات کا بیش ہبہ ذخیرہ ہوتی ہیں۔ افقار آپ کا خاص منصب ہے اور آپ کے اتنی ملک میں اعتماد و وقعت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ وطن صوبہ سرحد (مغربی سمنان) ہے۔ آپ اپنی گوناگون علمی خصوصیات کی وجہ سے مصر کی عالی مؤتمرین مطلب کے گئے اور وہاں آپ کا بلیغ خطاب و قوت کے ساتھ سنا گیا۔ آپ دارالعلوم ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ اور ملک میں معروف ہیں۔ صوبہ سرحد (مغربی پاکستان) آپ کا وطن ہے۔

کشاخت کے وقت مفتی صاحب صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ تاشہ

مشائیر دارالعلوماور بخدمات انجام دیں**(۵۲) حضرت مولانا سید محمد منت اللہ صاحب رحمانی مدظلہ**

آپ بھی دارالعلوم دیوبند کے ایک ہونہارا بن قدیم ہیں۔ دارالعلوم دیوبند فراغت کے بعد خانقاہ رحمانی میں اپنے والد بزرگوار کے جانشینی کی حیثیت سے لکھی نشین ہوتے اور خلق خدا کی روحانی اصلاح میں مشغول ہو گئے۔ ساتھ ساتھ درس تدریس کا مشغلو بھی جامعہ رحمانی میں جاری رکھا۔ آپ کی وجہ سے جامعہ رحمانی کو کافی ترقی ملی۔

تا آنکہ جامعہ کی سابقہ عمارت ناکافی ہو جانے کی وجہ سے آپ نے جدید عمارت کا سُنگ بنیاد رکھا جو آج نہایت شاندار صورت میں دیدہ زیارتی کے کھڑی ہوئی علوم دینیہ کی اشاعت و تربیت کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ نے ایک نہایت ہی شاندار

لائبریری اور کتب خانہ بھی تیار کرایا ہے جس کی شاندار عمارت تمام ضروری علوم و فنون کی کتابوں سے بھر پر اور آراستہ ہے۔ عالمی مؤتمر اسلامی قاہروہ (مصر) کے نئے بیجیت امیر شریعت ہمارا آپ کا نام منتخب کیا گیا۔ احقر کی معیت میں آپ نے مصر چاڑی کا سفر فرمایا۔ مؤتمر اور رابطہ اسلامیہ مکمل کردہ میں آپ نے مقالات پیش

فرائے جن کو وقت کی زگاہ سے دیکھا گیا۔ آپ مشائیر علاکہ میں سے ہیں۔ اور فضلاً دیوبند میں ایک امتیازی مقام رکھتے ہیں۔ آپ کی دینی و علمی خدمات اور ساتھی ہمہ کے والد بارج حضرت اقدس مولانا محمد علی صاحب خلیفہ ارشد حضرت اور مولانا شفیع فضل الرحمن صاحب کیجھ مراد آبادی قدس سرہ کی روحانی نسبت اور حلقہ اثر کے زیر الہ

اہل ہمارا واثیہ نے آپ کو امارت شرعیہ ہمارا اور ایسہ کا امیر شریعت منتخب کیا۔ آپ کی امارت کے زمانہ میں امارت شرعیہ نے ہبہ زیادہ ترقی کی اور اس کی شاخیں صورت میں مختلف اضلاع میں قائم ہو گئیں جو شرعی قانون کو عمل طور پر اس خطہ میں نماذل العمل کے ہوئے ہیں۔ آپ دارالعلوم کی مجلس شوریٰ کے کن کریں اور موشر مسجدی ہیں۔

یہ مختصر فہرست ان مشائیر کی ہے جن کے نیومن سے ہندوپاک کا گوشہ گورنر شریف ہے۔ برابر ہو رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہیر دن ہند میں بھی ان حضرات کے نیومن جاری ہیں۔

مشائیر دارالعلوم

اور

جو خدمات انجام دیاں

مشائیر بہت سے ذمی استعداد افراد ایسے ہیں جو پڑھنے پڑھانے میں توزیعہ مشہور نہیں ہوتے لیکن اپنی اہمیت اور قابلیت کی بنا پر دوسرا علی کاموں میں آنکھ دا ہاتا بن کر چکے۔ مثلاً تصنیف، خطاب، طب اور صحافت وغیرہ میں بہت مشہور ہوئے۔ چند افراد کی فہرست درج ذیل ہے۔

(۱) مولانا احسان اللہ خاں صاحب تابوچور نجیب آبادی۔ سابق پروفیسر دیال ملک

کا جو لاہور و ایڈیٹر "اوی و نیا" لاہور۔ آپ بہت مشہور صحافی اور منتزہ شاعر تھے۔

(۲) مولانا مظہر الدین صاحب بجنوری۔ سابق ایڈیٹر "الامان" دہلی۔ آپ مشہور مقرر اور صحافی تھے مسلم لیگ کے منتزہ لیڈروں میں سے تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں کچھ عرصہ مدرس بھی رہے۔

(۳) مولانا شائق احمد صاحب غوثانی۔ سابق ایڈیٹر "عصر جدید" کلکتہ۔ آپ دیوبند

کے منتزہ ناصل اور ذہن و ذکا اور علمی استعداد میں اپنے درمیں فرمائے جاتے تھے مگر ذرائع کے بعد علمی سلسلہ قائم نہیں رہا۔ بلکہ اخباری دنیا میں آگر اسی میں منہک رہے۔ تقیم کے بعد پاکستانی قومیت اختیار کر لی۔

(۴) مولانا جیب الرحمن صاحب بجنوری۔ سابق ایڈیٹر "منصور" و "نجات" بجنور۔

(۵) مولانا حکیم الدین صاحب بجنوری۔ آپ مشہور طبیب تھے یسح المدک حکیم اہل خان صاحب کے استاد تھے۔

دارالعلوم کے فضلاَتے کرام کی کارکردگی

دارالعلوم دیوبند نے بحیثیت تعلیم گاہ ہونے کے ہر چیزی تعلیم دی اور ہمہ نوع فضلاَت پرداز کئے جنہوں نے مختلف شعبہ ہائے زندگی میں کام کیا۔ ذیل میں فضلاَتے دارالعلوم کی کارکردگی کا مختصر تذکرہ بصورت اعدا و شمار پیش کیا جاتا ہے جس سے

ملک بیں دارالعلوم کی شاخیں اور زیر اثر مدارس؟

دارالعلوم کے فیضان نے ایک طرف تو ایسی شخصیتیں پیدا کیں جن میں سے ایک ایک فرد ایک مستقل اہم اور ایک مستقل جماعت کی حیثیت رکھتا ہے دوسری طرف تک میں مدارس دینپریہ کا سلسلہ قائم کر کے شخصیتیں اور کوار بنا نے کی مشینیں فصب کر دیں ورنچہ مدارس اور ابتدائیں کے فریفع ائمہ غیر معبدوں فیضان کا سلسلہ تھا گہ انداز میں بھول دیا۔

دارالعلوم کی تاسیس کے بعد تقریباً ایک ہزار مدارس عربیہ ہندوستان کے مختلف حصوں میں قائم ہوئے۔ ان میں سے بہت سے مدارس ایسے ہیں جن کے امتحانات اور کارگزاری کی گئیں تھیں جبکہ دارالعلوم ہی کے ذمہ تھے۔ مگر وہ خود اپنے اثر کے لیے اڑاکے مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے جامعہ طیہہ نوکھاٹی۔ تقسیم کے بعد اس کی تحریک ختم ہو گئی (یا مدد سے) اسیم العلوم مراقبہ۔ یاد رسمہ جامعہ مسجد امردہ، یاد رسمہ گلاؤ ڈھنی وغیرہ۔ اگر ان متفاہفہ مدارس کے مقابلہ اور تعلیم یا فتنہ بھی دارالعلوم کے فیض یا فتنہ حضرت میں شامل کئے جائیں جیسا کہ بالواسطہ وہ یتینا شامل ہیں، تو ہندوستان کا کوئی علمی حلقوہ ایسا نظر نہ آئے گا جہاں دارالعلوم کی ظاہری اور معنوی برکات کا مہم تکمیل ہو۔ پھر اگر ان تمام مدارس متفاہفہ و مکاتب اور اجتماعی اداروں کے حلقوہ ہائے اثر کو بھی دیکھا جائے تو بلاشب غیر یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کا کوئی صحیح العقیدہ مسلمان خواہ وہ کسی حصہ کا رہے والا ہو دارالعلوم کے راستے تو دناسب سے سبک بار نہیں ہو سکتا جس سے اندازہ ہو سکے گا کہ اس تکمیل سعادت کا شجرہ نہیں کمال کیا گی اور اسکے شہریں ثرات نے کتنی کوچات لازماں بنی۔

بیرون ہند ممالک غیر میں دارالعلوم کا اثر پھر کوئی اسلامی منظقه ایسا نہیں جہاں دارالعلوم کے علمی اثرات کسی نہ کسی صورت میں سپتختے ہوں اور قائم نہ ہوں۔ حتیٰ کہ مرکز اسلام و حجیط وحی کی خدمت کے لئے بھی دارالعلوم ہمہ وقت حاضر رہا۔ ۱۰ سے یہ فخر حاصل ہے کہ اس کے متعدد فضلا نے چیز مقدوسیں میں بھی مستقل افادہ و درس کا سلسلہ چاری کیا اور ان حضرات کا درس اس

اعلیٰ درجہ کے معلمین و مدرسین

اعلیٰ درجہ کے مصنفوں

اعلیٰ درجہ کے مفتی

۱۱۶ اعلیٰ درجہ کے مناظر

۱۰۸ اعلیٰ درجہ کے صحافی

اعلیٰ درجہ کے خطیب و مبلغ

اعلیٰ درجہ کے طبیب

قد وقبول ہوا کہ اہل حجاز نے دور دور سے اگر اس میں شرکت کی اس طرح مرکز اسلام (جلاز مقدس) اور مرکز علوم دارالعلوم کے درمیان ایک مخصوص ربط قائم ہو گیا۔ سب سے پہلے حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب مدرسی جہاجر مدینیؒ نے حرم مکہؓ میں حدیث تفسیر اور مختلف فتنوں کے درس کا کامیاب سلسلہ جاری فریا۔ اس درس سے اہل مکہ و اہل مدینہ اور دوسرے حجازیوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا۔ دوسرے ممالک سے ہزارین آتے تھے وہ بھی اس درس سے فیضیاب ہوتے تھے، اس کے بعد حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ نے حرم ببوی علی صالحۃ الصلوۃ والتسدیم میں اٹھارہ سال تک علوم کتاب و سنت کے دریا بہائے جس سے ہزاروں حجازی شامی عراقی اور مختلف بلاد اسلامیہ کے لوگوں نے اپنی علمی پیاس بھائی اور ان تک دارالعلوم کی سند پہنچی۔

پھر حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب نے اس سرہ کے برادر بزرگ حضرت مولانا بیہد احمد صاحب فیض آبادی قدس سرہ جہاجر مدینی فاضل دارالعلوم دیوبند نے مدینہ طیبہ میں مستقل طور پر ایک رسمۃ المدرستہ الشرعیۃ کے نام سے جاری کیا۔ جواب نک کامیابی سے چل رہا۔ اس مدرسہ کی رواد و مدرسال جھنپی ہے اس میں کئی سو طلبہ اور متعدد مدرسین کام کر رہے ہیں۔ اس مدرسہ میں جملہ علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں اور بچوں کو دستکاری بھی سکھائی جاتی ہے۔ اسی مدرسہ میں دارالعلوم کے مشہور استاذ حضرت مولانا عبد الشکور صاحب بیہد نے بھی مستقل مدینہ منورہ میں قیام فرمائے جس مدرسہ میں تعلیم دی۔ اہل مدینہ نیز مذاقات مدینہ کے لوگ اس سرچشمہ عالم سے اپنے نک سیراب ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا بیہد صاحب میر بھٹی مظلہ سائبی استاذ دارالعلوم دیوبند نے بھی جواب نایاب تدبیر میں سے ایک ہونہار فاضل علم اور شیخ طریقت ہیں۔ مدینہ منورہ میں مستقل قیام فرمائی کریعت و ارشاد، اصلاح اور تصنیف قائم تایف کا سلسلہ جاری فرمایا ہے جو تا حال قائم ہے۔ گو مولانا محترم بوجا امراض و کبری ضعیف ہو گئے ہیں۔ لیکن ہمت باطنی سے فیضان کے یہ سب سلسلے بدستور قائم ہیں اور نہ صرف اہل حجاز بلکہ دوسرے ممالک مثلہ ساؤ تھا افریقہ اور ایش افریقہ وغیرہ کے ہزاراً افراد آپ کے علوم و فیضان سے مستفید ہو رہے ہیں۔

اس کے علاوہ افغانستان، پاکستان، برصہ، افریقہ وغیرہ میں تقریباً ہر صوبہ اور بعض ممالک میں شہر، شہری مدارس اور خانقاہیں قائم ہیں جہاں فضلہ دارالعلوم ظاہری و باطنی افاضہ میں شغوف ہیں۔ تاریخی اعلاوہ شمار کے علاوہ خود اس ناجائز کا مشاہدہ بھی گواہ ہے۔

دارالعلوم کے تعلیمی مصادر اور اس کی کفاہت شعاراتی دارالعلوم کے تعلیمی مصادر اور اس کی کفاہت شعاراتی مصادر پیش کرنے سے قبل یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مصادر کی نوعیتیں بھی پیش کردی جائیں تاکہ درس سے اروں سے مقابلہ کرنے میں آسانی ہو۔

دارالعلوم میں ابتداء ہی سے مفت تعلیم کا انتظام ہے مفت تعلیم کا صرف یہ فہم نہیں ہے کہ طلبہ سے کوئی تعلیمی فیس نہیں لی جاتی بلکہ ہر امیر و غریب طالب کو حسب ذیل چیزوں باکل مفت فراہم کی جاتی ہیں۔

تعلیم کتابیں، رہنمے کے کمرے، بجلی کی روشنی، سردیوں میں گرم پانی، گرفتاریوں میں سرد پانی، بھتی امداد، ایسے طلبہ کی تعداد تقریباً ۱۰۰ ہزار ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ جو طلبہ غیر مستطیع ہوتے ہیں۔ انہیں مذکورہ بالا سہولتوں کے علاوہ صب ذیل امداد بھی مفت دی جاتی ہے۔

دونوں وقت کا کھانا، سال میں چار جوڑے کپڑے، سال میں دو جوڑے جوتے۔ تیل، ادھ، بون وغیرہ کے اخراجات کے لئے ۵۰ پ مہوار۔ سردیوں میں لحاظ اور کبل، ایسے طلبہ کی تعداد تقریباً ۹۰۰ ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ حضرت مدرسین اور کارکنان کی تھواں ہیں جن پر ہر ماہ تقریباً ۲۰۰ ہزار پر صرف ہوتا ہے۔ اس مرکزی ادارے کی شان اس کی وسعت اور پھیلاؤ کو دیکھئے پھر اس کے تعلیمی اخراجات پر نظر ڈالئے تو آپ کو اس کے کارکنوں کی دیانت داری، لذیت شعاراتی اور اخلاص مندی کا اندازہ ہو جائے گا۔

ذیل میں ۱۲۸۳ھ سے ۱۳۰۴ھ تک ایک سو سال کی آمدی و خرج وغیرہ کے کچھ اعلاوہ ثانی پیش کئے جاتے ہیں۔

سوبرس کی کل آمدنی	پانچ۔ آٹھ۔	مطہریہ
سوبرس کا کل خرچ	۲	۱۳۰، ۵۴۴
سوبرس کا کل خرچ تعمیرات	۳	۱۰۰۸، ۳۶۰، ۹۳۶
سوبرس کی قدر اوفضائلگرام	۴	۱۱۵، ۰۰۰، ۸۹۵
سوبرس کی تعداد فنادی	۷	۷۸۱۶
سوبرس کی تعداد و فنی جو کتب خارج میں موجود ہیں	۲۱	۴۹، ۷۱۵
فضائل و مستفیدین دارالعلوم کی عددی تفصیلات	۸۲	۳۵۰
سوبرس میں جن طلبہ نے دارالعلوم سے استفادہ کیا اور جن کے تعلیمی اخراجات	۴۵	۴۲۷
دارالعلوم نے برداشت کئے ان کی مجموعی تعداد	۹	۱۳
سوبرس میں فضائلگرام کی تعداد جنہوں نے مندوستی حاصل کی یعنی ۲۱۴ کو منہا کرنا	۵۸	۳۱۰
کے بعد ان طلبہ کی تعداد جنہوں نے دارالعلوم سے استفادہ کیا	۵۸	۳۱۰
کل خرچ میں سے صرف تعمیرات منہا کرنے } پانچ۔ آٹھ۔	روپیہ	
کے بعد سوبرس میں کل خرچ کی مقدار } ۹	۱۳	۳۶۰، ۵۰
طالب علم پر خرچ کی مقدار	۴۵	۱۳۰، ۵۰
۵۰، ۳۶۰، ۰۵۰، ۹۶۰، ۰۵۰ رپہر ۱۳ آٹھ۔ ۹ پانچ کو اگر، ۲۱، ۴۵ طلبہ پر تقسیم کیا جائے۔ تو ایک	۱۲۹	روپیہ
مکمل حالتیار کرنے پر خرچ کی مقدار	۱۳۱۲	روپیہ
اتنی حیرر قم سے ایک ایسے عالم کا تیار ہونا جو قوم کی تمام دینی ضروریات		
مشتمل ہے کیہے نفوس۔ تدریں، تصنیف، افتخار و متناظرہ، صحافت، خطابات و تبلیغ، اور		
اصلاح عام کے فرائض وغیرہ کو بخوبی انجام دے سکے۔ یقیناً ایک معیاری اور مثالی		
کامیابی ہے، جس کی نظر دنیا کے رسی اداروں میں ملکی نامکن ہے۔ دارالعلوم اس		
بجا طور پر فخر و نازک رکھتا ہے۔ بالخصوص جب کہ یہ بھی پیش نظر کھا جائے کہ اس، ۱۳		
کی تعداد میں کتنی ہستیاں ایسی بھی ہیں کہ اگر لاکھوں روپیہ ان میں سے کسی ایک نبھ		

کر دیتے جائیں تو کم ہیں جن میں سے بعض کے نام ہم اور شمار کر لے چکے ہیں۔
بوجمال دارالعلوم کافیض باراں رحمت کی طرح عام رہا۔ علم کے پیاسے دودر در
سے آئے اور اس نے ہر ایک کے ظرف اور ہر ایک کی طلبے کے موافق اس کی پیاس
بچائی۔ ہندوپاک کا کوئی شہر کوئی قبیلہ اور کوئی گوشہ ایسا نہ گا۔ جہاں اس چشمہ
دین سے نکل ہوئی کوئی نہ موجو دنہ ہو جس سے سب لوگ سیرب ہوتے ہیں۔
یک چدائی است دریں خانہ کہ از پر تو آں
ہر کسی نگری انجمن ساختہ اند
(خود) مذکورہ بالاسطور میں پانچ۔ آٹھ۔ ۱۳۰، ۵۰، ۹۶۰، ۳۶۰ روپیے کا جو تریخ
و کھایا گیا ہے وہ تعمیرات کے علاوہ باقی تمام شعبہ جات دارالعلوم کا خرچ ہے۔ اسی
میں دارالاوقاف کا خرچ بھی شامل ہے جس سے سو سال کے عرصہ میں ۲۱۵، ۴۹، ۲۱۵ فتاویٰ
صادر کئے گئے اور کتب خانہ کے اخراجات بھی ہیں۔ جس میں سو سال کے اختتام پر
۸۲۳۵۰ کتب موجود ہیں۔

دارالعلوم کے اسلاف

دارالعلوم دیوبند کے اسلاف میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ
سے لے کر حضرت نافوتی قدس سرہ شاہ کے سارے بزرگ شمار ہوتے ہیں۔ یکونکہ مسلمانوں
اور رواۃۃ دارالعلوم دیوبند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ کی جانب مسوب ہے،
اوسلوک میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ کا سلسلہ اکابر دارالعلوم میں
جاری و ساری ہوا چنانچہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نافوتی قدس سرہ اور حضرت
مولانا شیداحمد صاحب گنگوہی قدس سرہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ
کے اجل خلفاء میں سے تھے اور خود حاجی صاحب قبلہ میں سرہ دارالعلوم کے اسلاف میں ہیں۔